



الرسول ﷺ

(سیت کی کہانیاں)

دیا صنعت احمد لیبیڈ

وَ قَصْصَنْ
الرَّسُولُ

(سیرت کی کہانیاں)

دیاض احمد سبید

ہماریکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ

پوسٹ بجس ۲۱۳۵

اسلام آباد

✓ ۹۶۹۹۲۱

۳۸ ریا

۲۵۱۲۱

۹۱

نام کتاب : قصصُ الرَّسُولَ

طبع : اول

تعداد : ایک ہزار

پریس : فیض الاسلام پرنٹنگ پریس، راولپنڈی

من اشاعت : ۱۹۸۴

ناشر، ہماری محلہ ریسرچ انٹرٹیوٹ، اسلام آباد

قیمت : ساٹھروپے

جعفر

فہرست مضمایں

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱	پہلا باب حالت زندگی	۹
۲	دوسرا باب کچھن کے واقعات	۱۵
۳	تیسرا باب پنجوں سے دلچسپی	۲۶
۴	چوتھا باب حدائق دامت	۳۵
۵	پانچواں باب جماعت و شجاعت	۴۶
۶	چھٹا باب اعدل و انصاف	۴۰
۷	ساتواں باب ایقائے عہد	۴۱
۸	اٹھواں باب حلم و عفو اور صبر و تحمل	۴۶
۹	نواں باب حسن اخلاق	۶۳
۱۰	وسواں باب تدبیر اور معاملہ فہمی	۱۰۳
۱۱	کیارہواں باب حضور کامزاج	۱۱۰
۱۲	بازہواں باب محنت کی غلط	۱۱۶
۱۳	تیزہواں باب معذوروں سے خصوصی شفقت	۱۲۳
۱۴	چودھواں باب جانزوں سے ہمدردی	۱۳۹

نمبر شار

سند

ٹکڑاں

۱۰	پندرہ صوراں باب	سادگی اور صفائی
۱۱	سریوں باب	افضالی ربب
۱۲	شیر ہراں باب	اممیغرات
۱۳	امصار حصر ہاں باب	والدین کا ستام
۱۴	انسیوں باب	بیویشی کلادی
۱۵	مغلیں الفاظ کے مسانی	تاریخ کتب احادیث
۱۶	۲۰	۱۳
۱۷	۱۹	۱۶
۱۸	۱۸	۱۷
۱۹	۱۷	۱۶
۲۰	۱۶	۱۵
۲۱	۱۵	۱۴
۲۲	۱۴	۱۳
۲۳	۱۳	۱۲
۲۴	۱۲	۱۱
۲۵	۱۱	۱۰

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

افتتاحیہ

اللّٰہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تین بچوں سے نواز لہے۔ ایک ابھی بہت چھوٹا ہے۔ جبکہ بڑے مشاراللہ بات سمجھنے لگے ہیں۔ بشور میں اضافے کے ساتھ ساتھ تجسس ڈھر رہا ہے۔ بت نئی باتوں اور چیزوں کے بارے میں معلومات کی فرائش ہوتی ہے۔ جدید نفیات کہتی ہے۔ کہ بچوں کے سوال کامعقول و مدلل جواب دیا جائے۔ ان کی فرماںشوں کو رد نہ کیا جائے۔ وہ کہانی کی فرمائش کریں کو کہانی سنائیں۔ سیر کے لئے کہیں تو گھانے لے جائیں۔ کھلین چاہتے ہوں، تو پابندی نہ لگائی جائے۔ عرض ہمہ جہتی ذہنی وجہانی نشوونما کے لئے انکی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا اصرام اذبی ضروری ہے۔

ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میں اور میری بیوی دونوں سر دس پیشہ فارغ وقت کی درنوں کے پاس کی۔ دفتر سے واپسی پڑھروں کے حساب، بچوں کو ملنے والے ہوم درک سے منت لینا ہی غینت ہے، اُنکی دیگر فرماںشوں سے کیونکہ عہدہ برآ ہوا جائے۔ اور نچے بھی دُوہ جو فارغ ہوتے ہیں پہلی فرمائش کہانی کی کرتے ہیں۔ بچہ بادشاہ ہوتا ہے۔ جلیم حاکم مرگِ مفاجات۔ سوچیلے پہنانے کریں لیکن کہانی سنائے بعیز جھپٹکارا نہیں۔ چنانچہ بچیں کی پڑھی، سُنی جنوں اپریوں کی کہانیوں سے لے کر تاریخی قصتوں تک سب کچھ

کہہ ڈالا۔ لیکن تائیگے؟ ایک روز سب دخیرہ ختم ہو گیا۔ لیکن ادھر ہل من مزبدہ کی آواز ہتھی۔

چنانچہ نئی ترکیب سو جھی کہ دو ایک بچوں کے ماہنہ رسائل لگوادیسے جائیں اور کچھ بازار میں
ملنے والی کہانی کتابوں پر احضار کیا جائے۔

یہ تدبیر کچھ کارگر ثابت ہوئی۔ ہم اپنی جگہ خوش کہ کہانیاں سنانے سے جان چھوٹی اور نیچے اپنی
جلگہ مصروف مسلمیں۔ لیکن یہ سب کچھ نہ یادہ دیرہ ٹھپل سکا۔ اس سہل پسندی نے مجھے اس دن جھینجھوڑ
کر کہ دیا جب میرزاد و سری جماعت میں پڑھتے والا بچہ بھجوڑ سے "رمماں" کا مطلب پوچھنے آیا۔ تشویش
ہوئی کہ صاحبزادے ابھی سے کس چکر میں ہیں۔ چنانچہ ملا خطہ متن کے لئے کتاب کی طلبی ہوئی۔ اور وہ
بچوں کے لئے لکھا جانے والا ایک روپے والا مُناساب بظاہر بے ضر کتاب بچہ متحاکموں کو پڑھاتے
عُقدہ کھلا کہ بچوں کو پیش از وقت بلوغت کی منزل سے ہمکنار کرنے والی جھونڈی سی کہانیوں کا مجموعہ
ہے۔ کتاب نیچے کے ہاتھ سے لی۔ اور صنائع کرداری۔

پس یہی واقعہ زیر نظر کتاب کی تصنیف کا سبب بن گیا۔ صنیر نے ملامت کی کہ کیا ہم واقعی
اپنے بچوں کی ذہنی اور جسمانی ضرورتوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ کل ان سے کارہائے غمیان کی
تحقیق کر سکیں۔ جوابِ نقی میں تھا۔ ہم تو ان کے مطالعے کی عادت کی بھی صحیح تربیت نہیں کر سکتے۔
چنانچہ میں نے اپنے اور قوم کے سمجھی بچوں کی اس ضرورت کے پیش نظر سیرۃ رسول کے
 مختلف گھوشوں کو مورکرنے والی کہانیوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ بچپن میں پڑھی ہستی
کہانیوں کا اثر گہرا اور دیرپا ہوتا ہے۔ جنکن ہے میری یہ کاوش قوم کے فوہناوی میں میرہ پاک کے
خطاب کا ذوق و شوق پیدا کر کے۔

یوں تو تاریخ ایسرت اور حدیث کی کتابیں حیاتِ اقدس کے مختلف گروشوں کو منور کرنے والے واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ لیکن کتاب کے جمجم اور قاری کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے انتساب اور صوابہ بید سے کام یا گیا ہے ۔

شروع میں حیاتِ اقدس کا اجمالی خاکہ بھی دیا گیا ہے۔ تاکہ نبی پاک کی زندگی اور کارناموں کا مجموعی تاثر برقرار رہے۔ کتاب میں شامل ہینان حدیث کے متعدد مجموعوں اور شفہ تاریخی کتب سے اخذ کی گئی ہیں، حوالہ چاٹ درج کئے گئے ہیں، زبان حتی الامکان آسان اور سادہ لکھنے کی لکشش کی گئی ہے لیکن خیری کے حسن کو برقرار رکھنے کے لئے اگر کہیں قدر سے مشکل انفاظ استعمال ہوئے تو کتاب کے آخریں ان کے معانی لکھ دیئے گئے ہیں۔ تاکہ میرے کم سن قاری کسی قسم کی خارجی مدد کے بغیر عبارت کا مفہوم و مطلب سمجھ سکیں ۔

ہنیادی طور پر یہ کتاب پھوپھو کے لئے ہے معنوی اعتبار سے "بچہ" ایک دیسیح صطلاح ہے۔ بچہ کسی بھی عمر کا ہو سکتا ہے۔ تاہم میری کتاب سے مکول اور کالج کے پھوپھو کے علاوہ مو صنوع سے دلچسپی رکھنے والے عام قاری بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔

گرقبول افتاد ذہبے عزّہ شرف

الداعی الى الخير

دیاض احمد سید

اسلام آباد

یکم اگست ۱۹۸۰ء

بخطابی ۳ ذی قعده ۱۴۰۰ھ

جملہ حقوق بحق ہماریکیل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ اسلام آباد



امن سا ب

قوم کے نوہنالوں کے نام

جن میں

شجاعت

وجاہت

اور

سعادت

بھی شامل ہیں



حالتِ زندگی

ہمارے پیارے بنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۲۱ اپریل ۶۳۰ھ کو سعودی عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوتے۔ سموار کا دن اور اسلامی تقویتی دینے والوں کی بارہو تاریخ تھی، آپ کے والد کا نام عبد اللہ تھا اور آپ کی پیدائش سے چند ماہ پہلے ہی دفاتر پاچھے تھے۔ آپ کے والد عبد المطلب میم پوتے کی پیدائش پر بہت خوش ہوتے۔ اور محمد نام رکھا۔ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے نفظی معنی ہیں جس کی تعریف کی جئی ہو۔ والدہ حضرت آمنہ نے نام احمد رکھا اس کے بھی تقریباً یہی معنی ہیں۔

حضرت ابھی چند ہی ماہ کے تھے کہ عرب کے روانج کے مطابق دودھ پلانے کے لئے قبیلہ بنو سعد کی ایک خاتون حضرت حلیمه کے پرداز ہوتے۔ فراسیلہ ہوتے تو والدہ واپس لے آئیں۔ لیکن آپ کو والدہ کے پاس زیادہ عرصہ رہنا نصیب نہ ہوا۔ ابھی آپ صرف چھ سال کے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب حضور اپنے والد کی ذمہ داری میں آگئے جو آپ کو بہت چاہتے اور ساتھ ساتھ رکھتے تھے۔ لیکن آٹھ سال کے ہوتے تو دارا بھی ونات پا گئے۔ اس کے بعد آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ آپ کے چچا غیر بادمی تھے۔ کافی بڑا کبڑا اور کمانے والا صرف ایک چنانچہ

حضرت مجھی محنت مشقت میں چھپا کا ہاتھ بٹانے لگے۔ بچپن میں بگریاں چڑائیں
و راسیانے ہوئے تو تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔

رسول خدا شروع سے ہی ہے حد نیک، تشریف اور ایماندار شخص تھے۔ آپ کی ان
خوبیوں کا چھر چا ہوا تو مکر کی ایک بیوہ خالتون حضرت خدیجہؓ نے آپ کو اپنا تجارتی
کارندہ مقرر کر دیا۔ مال تجارت دے کر ملک شام کی طرف بھیجا اور اپنا ایک ملازم
میرہ نامی کو ہمراہ کر دیا۔ حضورؐ نے اس ذمہ داری کو اس قدر عمدہ طریقے سے نجایا
کہ پہلے سے کئی گنا منافع ہوا۔ اور واپس آکر ایک پیسے کا حساب حضرت خدیجہؓ
کو دیا۔ میرہ نے بھی آپ کی بہت تعریف کی، کہ اس قدر دیانتار اور نیک شخص اس
نے آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت خدیجہؓ بے حد متاثر ہوئیں اور حضورؐ کو شادی کا پیغام
بھیجا، جسے آپ نے اپنے چھپا حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول کر لیا۔ شادی
کے وقت آپ کی عمر ۲۵ برس اور حضرت خدیجہؓ کی چالیں برس تھیں۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضورؐ کی طبیعت دنیا سے اچھی ہوتے گی۔

او گرد حصیل ہوئی براہمیوں سے آپ کو شدید نفرت تھی۔ چنانچہ راہِ حق کی علاش میں
رسنے لگے۔ ان دونوں اکثر ایسا ہوتا کہ آپ کئی دنیوں کی خوراک لے کر کہ سے باہر غارِ حرا
میں تشریف لے جاتے اور عبادت میں مصروف رہتے۔ ایک دن آپ غارِ حرا میں
عبادت میں مصروف تھے، کہ حضرت جبراہیل تشریف لاتے۔ حضورؐ مجھراگئے تو جبراہیل نے
تسلی دی اور کہا کہ وہ خدا کا پیغام لے کر آئے ہیں۔

پہلی دھی تھی

اَقْرَأَ اِبْرَاهِيمَ رَبِّكَ اَلَّذِي اَخْلَقَ

ترجمہ: اللہ کے نام سے پڑھئے۔ الح

اُوقٰت آپ کی عمر حوالیں برس ہو چکی تھی۔ لگر تشریف لائے تو ابھی تک خوفزدہ تھے۔ حضرت خدیجہؓ سے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ انہوں نے تسلی دی کہ فکر کی کوئی بات نہیں۔ اللہ یقیناً پہتری کرے گا۔ اور سب سے پہلے آپ پر ایمان لائیں۔ اس واقعہ کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور آپ کی وفات تک جابری رہا۔ پورا قرآن حکیم کوئی تسلیں پرسوں میں نازل ہوئا۔ آخری دھی حملت کے کچھ ماہ پہلے آخری حجج کے موقعہ پر نازل ہوئی تھی۔

ابتداء میں آپ خاموشی سے تبلیغ کرتے رہے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت خدیجہؓ کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علیؓ اور حضرت زید بن حارث شامل تھے۔ کچھ عرصہ تک خاموش تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اللہ کے حکم پر لوگوں کو کعلم کھل دینِ حق کی دعوت دینے لگے۔ اس پر بکر کے لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے نہ صرف آپ پر بلکہ اسلام قبول کرنے والے دوسرے لوگوں پر بھی سختیاں شروع کر دیں۔ منظام برداشت سے برداشت کے تو حضور کے حکم پر کچھ مسلمان ہجرت کر کے جبٹہ چلے گئے۔ مگر جلد ہی واپس آنا پڑا۔ خود حضور نے بھی نکہ کے گرد دنواح میں تجلیع اسلام کی کوشش کی۔ سب سے پہلے

طالف تشریف لے گئے، لیکن کام نہ بنا اور طائف کے سرداروں نے آپ کی
بات تک سننے سے انکار کر دیا

ابھر سے مایوس ہو کر آپ نے دوسرے شہروں سے ہر سال حج کی غرض سے
مکہ آنے والے لوگوں پر توجہ دی، جن میں مدینہ کے مقابل ادھ اور خزرج کے لوگ بھی
شامل تھے۔ ان پر اس تبلیغ کا خاطر خواہ اثر ہوا اور وہ ٹری تعداد میں مسلمان
ہو گئے۔ انہیں کی دعوت پر شمسہ نبوی میں آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف
لے گئے بہت سے دوسرے مسلمان بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے آئے یوں مدینہ میں
اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی۔ ہجرت کا واقعہ اسلامی تاریخ میں بے حد اہم ہے۔
یہیں سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے۔

مکہ والوں نے جب دیکھا کہ مسلمان مدینہ میں چین کی زندگی گذار رہے ہیں اور
دین اسلام بھی فروغ پار رہا ہے، تو مدینہ میں چڑھائی کر دی شمسہ ہجری میں بد
کے میدان میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہوتی جس میں تعداد میں
ذیادہ ہونے کے باوجود کافروں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے بہت سے
مردار بھی مارے گئے۔ اگلے سال احد کا واقعہ پیش آیا، اس میں بھی مسلمان غالب
رہے۔ اس کے بعد غزوہ خندق میں بھی مسلمانوں کو فتحِ فیض ہوتی۔

امسل کامیابوں نے ان کے حوالے ٹرھادیئے۔ مذہب اسلام کو پڑھتے چیلے
دیکھو کہ اردوگرد کے بہت سے مقابل بھی مسلمان ہو گئے۔ مدینہ کی اسلامی ریاست

دین بدن مفہوم طہوتی جا رہی تھی، لیکن حضور کا دل مکہ میں ٹالکا ہوا تھا۔ آپ خانہ کعبہ کی زیارت کے لئے بے چین تھے۔ دل میں یہ خیال بھی تھا کہ مکہ والوں کو ایک دفعہ اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جائے چنانچہ سیدہ ہمیں آپ .. مصطفیٰ اور اسلام کے ہمراہ زیارتِ کعبہ کے لئے روانہ ہوتے۔ مگر مکہ والوں نے ایسا نہ کرتے دیا۔ البته فرقین میں ایک معاہدہ ہے پا گیا۔ جسے تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ گوہ مسلمان اس سال عمرہ اور حجہ نہ کر سکے۔ تاہم یہ معاہدہ فتح مکہ کا سبب بن گیا۔ ہمارا یہ کہ کفار مکہ نے خود ہی معاہدہ کی عکاف ورزہ کی اور اسے ختم کر دیا۔ اس پر رسول اللہ میں دس نہار سا محقیقوں کے ہمراہ دوبارہ مکہ کی طرف روانہ ہوتے۔ شہر کے قریب جا کر پڑاؤ کیا۔ کفار مکہ اسلامی لشکر سے اس قدر مرعوب ہوتے کہ بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیتے۔ مکہ فتح ہو گیا۔ حضور نے خانہ کعبہ کو بتول کے وجود سے پاک کیا اور مکہ والوں کو عام معافی دے دی، کچھ روز قیام کے بعد آپ مدینہ والیں تشریف لے گئے۔ چونکہ آپ ابھی تک حجہ نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ سیدہ ہمیں اس عرض کے لئے مکہ تشریف لے گئے۔

ایک لاکھ سے زائد صحابہ ہمراہ تھے، یہ حضور کا آخری حج تھا لہذا اسے حجۃ الوضاع بھی کہتے ہیں۔ اس موقع پر آپ نے ایک بے حد اہم خطبہ مدشاد کیا، جسے اسلامی تعلیمات کا پنہوڑہ کہا جاتا ہے۔

حج سے واپسی پر آپ بیمار پڑ گئے۔ علیح کے باوجود صحت دن بدن گرفتگی

جب کے ہمت ریجہ و مسجد نبوئی میں جو کوئی نمائہ پڑھتے رہے ترینہ مدرس
نہ گئے۔ وہ حضرت اپنے عشیریہ کو اپنے بچہ مقرر کر دیا۔ آخر دفعہ وقت میں وہ
بندہ پاٹھے لئے ریجہ الادالی کے پڑھنا تاریخی تھی۔ سیدنا کاظم اور سیدنا
علیٰ علیہما السلام سے بندہ۔ وقت وقت آپ کی عمر بہ راست تھی۔

چپکن کے واقعات

بنیادی طور پر یہ کتاب بچوں کے لئے ہے۔ لہذا اس نسبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے زمانے کے دلچسپ واقعات کو بطور خاص شامل کیا جا رہا ہے۔

(۱)

جلیلہ کا گود لینا

مکہ میں رواج تھا کہ شرفاء اپنے بچوں کو دودھ پلانے اور پرورش کے لئے صحراًی علاتوں کے اچھے قبائل میں بصحیح دیتے تھے۔ یوں کھلی آب دہرا میں ان کی صحت اچھی ہو جاتی اور وہ خالق عربی زبان بھی سیکھ لیتے تھے۔ چنانچہ صحراًی قبائل کی عورتیں وقتاً فوتاً مکہ آئیں اور نئے پیدا ہونے والے بچوں کو سہراہ لے جائیں، عام طور پر یہ بچے سرداروں اور امیر لوگوں کے ہوتے تھے اور ان عورتوں کو اس خدمت کا معقول معاوضہ ملتا تھا۔ حضور کی ولادت کے کچھ عرصہ بعد بنی سعد قبیلہ کی کچھ خواتین اسی مقصد کے لئے مکہ آئیں۔ ان میں

حضرت حلیمه بھی شامل تھیں۔ سب عورتوں نے شہر کا چکر لگایا۔ اور کھاتے پتے ہو گوں کے بچے لے لئے۔ حضور کے گھر بھی کچھ خواتین گئیں۔ لیکن غریب اور قیم جان کر کسی نے بھی انہیں گود نہ بیا۔ سب کا خیال تھا کہ بچے کا باپ تھے نہیں۔ ایک یوہ ماں ہے اور پورہ صاحادار۔ وہ بھلا انہیں کیا معاوضہ اور انعام دے سکیں گے۔ اتفاق کی بات ہے کہ حضرت حلیمه کو کوئی بچہ نہ ملا۔ حضور کے بارے میں اس کے خیالات بھی دوسری عورتوں جیسے تھے کہ قیم بچہ ہے۔ فُدا جانے کچھ ملے یا نہ ملے۔

جب واپسی کے لئے سب تیار ہو گئے تو حلیمه نے چوچا کہ یوں خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس قیم بچے کو ہی لے لیا جائے۔ چنانچہ اس نے حضور کو گود میں اٹھایا اور قافلہ کے ہمراہ اپنی بستی کی طرف روانہ ہو گئی۔ اب خدا کی شان دیکھئے کہ حلیمه کی مریل سی گدھی جو آتے وقت سب سے پیچھے تھی اب آگے بھاگی جا رہی ہے۔ قافلے کے دوسرے لوگ حیران تھے کہ اس کمزور سی گدھی میں اتنی پھر تی کہاں سے آگئی۔ انہیں کیا خبر تھی کہ اس کی پشت پر نبی آخر الزمان سوار ہیں۔

حضور کے آنے کی دیر تھی کہ حضرت حلیمه کے دن پھر گئے۔ ان کی اونٹی پہلے سے کہیں زیادہ دودھ دیشے لگی۔ چراگاہ ہری بھری ہو گئی اور یوں ان کی بکریوں کو پیٹ بھر کر چارہ ملنے لگا۔ غرض حضور کی آمد حضرت حلیمه کے لئے

ہی نہیں بلکہ ان کے پورے قبیلہ بنو سعد کے لئے بھی بہت مبارک ثابت ہوئی۔

۲

صرف اپنے حصے کا دودھ پینا

حیمہ کا ایک بیٹا حضور کا ہم عمر تھا۔ وہ اسے اپنا دودھ پلاتی تھیں۔ پہلے دن حضور کو دودھ پلایا تو آپ نے صرف ایک چھاتی سے پیا اور دوسرا کو منہ تک نہ لگایا۔ گویا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ یہ میرے رضاعی بھائی کا حصہ ہے اور میں اسے نہیں چھیر دوں گا۔ یہ سے ہو کہ حضور عرب بھر میں صادر و این کے لقب سے مشہور ہوتے مگر ان کی امامت و دیانت کا عملی مظاہرہ شیر خواری کے زمانے میں ہی شروع ہو گیا تھا۔

۳

رضاعی ہن کو کاٹا

زمانہ قدیم میں عرب میں جگہ جگہ میلے لگتے تھے۔ جن میں ہر عمر کے لوگ ٹپے شوق سے شرکت کرتے تھے۔ ان میلوں کو عکاظ کہا جاتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ داتیِ حیمہ بھی حضور اور اپنے بچوں کے سہراہ اسی قسم کے ایک میلے میں شرکت کے لئے گئیں۔ اپنا بچہ حیمہ نے خود اٹھایا ہڈا تھا۔ اور حضور کو آپ

کی بڑی رضاعی بہن شیخادا مٹھائے لے جا رہی تھی۔ شیخا تیر تیز چل رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے رضاعی بھائی کو گد گدا بھی رہی تھی۔ بچہ بھی خوش ہو رہا تھا۔ لیکن جب شیخا نے بہت زیادہ گد گدا کیا تو بچہ پُر امان گیا اور لڑکی کے کندھے پر لتنے کی وجہ سے کاٹا کہ زخم بن گیا۔ بعد میں زخم تو بھر گیا۔ لیکن نشان باقی رہا۔

وقت گذرا تا گیا۔ حضور پڑے ہو کر منصبِ بتوت پر فائز ہوئے اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی اور نئی نئی فتوحات ہونے لگیں۔ اس واقعہ کو کوئی پچھپن برس گذر گئے۔ اسلامی فوج ایک علاقے کو فتح کرنے کے بعد والپس لوٹی تو اس کے سہراہ کچھ جنگی قیدی بھی تھے۔ انہیں حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا تو ایک کمان کی طرح جھکی ہوتی کمز درسی پڑھیا نے آگے پڑھ کر رسالتہاب کو سلام کیا اور پوچھا حضور آپ نے مجھے پہچانا۔ حضور نے نفی میں جواب دیا تو پڑھیا نے بتایا کہ وہ آپ کی رضاعی بہن شیخا ہے۔ اس نے رسولِ خدا کو کاٹنے والا واقعہ بھی یاد دلایا اور کندھا دکھایا جہاں پر دانتوں کے نشانات اپ بھی موجود تھے۔

شیخاد کو اس حال میں دیکھ کر رسولِ خدا کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ انہیں نہایت احترام کے ساتھ اپنی چادر پر بٹھایا۔ اور پڑی دیر تک ان کے گھر کے حالات معلوم فرماتے رہے۔

(۲)

شیخ صدر

دائیٰ حلیہ کے ہاں قیام ہی کا داقعہ ہے کہ ایک روز آپ اپنے رضاعی مجانی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لئے بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ بکریوں کو کھلا جھوڑ کر آپ ایک چٹان کی اوٹ میں بیٹھ گئے۔ اتنے میں چند اجنبی آدمی آئے۔ حضور کو زمین پر ٹاکر سینہ مبارک چاک کیا۔ ان کا دل باہر نکالا اور ایک سیاہ دھنپہ کاٹ کر، یہ کہتے ہوئے دور بھینیک دیا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا۔ پھر انہوں نے دل کو دھوکر اپنی جگہ رکھا اور سینہ کا چاک بند کر کے آسمان کی طرف پرواز کر گئے۔

آپ کا رضاعی مجانی ایک طرف سہما کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جوہنی اجنبی آدمی غائب ہوئے وہ دوڑتا ہوا گھرا یا اور اپنے والدین کو اس داقعہ کی اطلاع دی۔ یہ سن کر دونوں میاں بیوی سخت پریشان ہوئے اور گرتے پڑتے صحرائی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ حضور ایک چٹان پر بیٹھے چیرانی سے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پوچھنے پر آپ نے پورے واقعہ کی تصدیق کی اور فرمایا کہ میں انہیں اجنبی آدمیوں کو آسمان کی طرف محو پرداز دیکھ رہا تھا۔

دائیٰ حلیہ اور ان کے شوہر اس غیر معمولی اور معجزاتی داقعہ سے بے حد

متاثر ہوئے اور حضور کو ان کی والدہ ماجدہ کے پاس واپس چھوڑ آئے تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔

(5)

کھیل تماشوں سے بیزاری

بچیں کا دور بھی عجیب ہوتا ہے۔ پچھے طرح طرح کے کھیل تماشوں میں حصہ لیتے ہیں اور نئی نئی دلچسپیوں سے لطف انداز ہوتے ہیں۔ لیکن حضور کا بچپن بہت ہی صاف ستر انداز۔ آپ کو ان کاموں سے ذرا دلچسپی پیدا نہ ہوئی۔ محنت کی عادت شروع سے ہی تھی۔ اور اپنے ہم عمر کو کوئی کے ہمراہ بکریاں چڑایا کرتے تھے۔ دن کو سخت گرمی کے سبب بعض دفعہ یہ نو خیز رڑکے اپنے اپنے ریوٹ کے ساتھ مرحوم مکر سے باہر چلے جاتے اور رات بھر قربی چراغاں میں جانور چراتے رہتے۔ ایک دفعہ مکر میں کسی کی شادی تھی۔ راگ رنگ کی مخالفی ہفتواں جب تی رہیں۔ آپ کے ساتھی چڑواہے ریوٹ آپ کی نگرانی میں چھوڑتے اور خود ناج گانا دیکھنے کے لئے چلے جاتے۔ واپس آکر وہ پروگرام کی بیجہ تعریف کرتے اور حضور کو کہتے کہ کبھی آپ بھی جا کر دیکھیں۔ بہت لطف آئے گا۔

ان کے بارے پر ایک رات حضور مان گئے اور اپنی بکریاں ایک دمرے رڑکے کی نگرانی میں چھوڑ کر شادی والے گھر چلے گئے۔ ابھی محفوظ میں بیٹھے ہی تھے۔

کے اوپر نکھنے لگے اور سو گئے۔ ورنہ چڑھا تو آنکھ بھٹکی۔ ساتھیوں میں واپس آئے تو سارا ما جرا بیان کیا۔ انہوں نے کہایہ محفوظ اتفاق تھے۔ آج آپ دوبارہ جائیں۔ ہم آپ کی بکریوں کی رکھواں کر لیں گے۔ آپ دوسری رات بھی گئے۔ لیکن پھر وہی قعہ ہوا۔ محفوظ میں جاتے ہی فیند کی آغوش میں پہنچ گئے۔ عرض اللہ تعالیٰ اپنے پاک بھی کو بچپن سے ہی جاہلیت کی ہاتوں سے محفوظ رکھا اور اس واقعہ کے بعد تو حضور کو کبھی ایسی مخالف میں جلنے کا شوق ہی نہ ہوا۔

۶

عکاظ کامیلہ

پرانے زمانے میں ملک عرب میں جگہ جگہ میلے لگتے تھے جن میں ہر طبقہ کے لوگ جو حق درحق شرکت کرتے اور عجیب و غریب جاہلانہ رسومات ادا کرتے تھے۔

اسی قسم کا ایک بڑا میدہ ہر سال مکہ میں بھی لگتا تھا۔ لوگ دُور سے اس میں شرکت کے لئے آتے۔ آپ کے چچا ابو طالب سنت قبیلہ قریش کی اہم شخصیتیں بھی شامل ہوتی تھیں۔ بوائزہ نامی صفت کے پاس ایک دن اور ایک رات بسر کرتے۔ بال کھاتے، قربانی کرتے اور دیگر عجیب رزیں ادا کرتے تھے۔ لیکن حضور کی طبیعت اس تقریب میں شرکت کے لئے آمادہ نہیں ہوتی تھی۔ سب

اُرگ چلے جاتے اور آپ گھر پر ٹھہرتے۔

ایک دفعہ یوں ہوا کہ چھاؤں اور کچھپھیوں کے احرار پر آپ بھی تشریف لے گئے۔ دل تو نہیں مان رہا تھا لیکن بڑوں کا کہنا مانا بھی مشکل تھا۔ خیر چلے تو گئے لیکن کسی بہودہ رسم میں حصہ نہ دیا۔ سب سے اگل سعداگ ایک طرفہ بیٹھے رہے۔ واپس آئے تو سخت خوف زدہ اور پریشان تھے۔ چھا اور کچھپھیوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے سمجھے سمجھے بتایا کہ میں بوانہ بُت کے قریب گیا تو اچانک ایک بہت لمبے قد کا آدمی دکھائی دیا جس نے سفید کپڑے پہن رکھتے تھے اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا۔

”محمد پیچھے ہٹ جاؤ۔ اسے ہاتھ نہ لگانا“ اور میں فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اس واقعہ کے بعد آپ کبھی کسی ایسی تقریب میں نہیں گئے اور نہ ہی آپ کو اس کے لئے مجبور کیا گیا۔

عزیز دوستو! دیکھا اشت تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی کس طرح حفاظات فرماتے ہیں۔ برائی کی طرف ان کی طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے انہیں ایسی جگہوں پر جانا پڑے بھی جائے تو فرشتے ان کو اپنی حفاظات میں لے لیتے ہیں۔

(6)

بھیرا سے ملاقات

یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ قریش مکہ بتوں کی پُپ جا کرتے تھے اور انہوں نے اس مقصد کے لئے خانہ کعبہ میں 360 بُت سجوار کھے تھے۔ لات، منات اور عزی بڑے بُت تھے۔ اور عربوں میں دستور تھا کہ وہ ان کی قسم اٹھاتے یعنی حضور کو بچپن سے ہی ان بتوں سے شدید نفرت تھی۔ آپ نے بھی ان کی عبادت کی اور نہ ہی قسم اٹھاتی۔

آپ کے چچا حضرت ابو طالب تجارت پیشہ تھے۔ ایک بار قافلہ کے ہمراہ مک شام کی طرف جانے لگے تو حضور مصل لگنے کے میں بھی ساتھ جاؤں کا چچا تذبذب میں تھے کہ سفر لمبا اور صبر آزمائی ہے۔ ایک بارہ سال کا بچہ کیوں کہ ساتھ دے سکے گا۔ خصت کا وقت آیا تو حضور چچا سے پٹ کر رونے لگے اور کہا "چچا جان۔ نہ میری ماں، نہ باپ، وادا تھے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ کے بعد آپ کے سہارے پر ہوں اور آپ بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر جائے ہیں، یہ سن کر حضرت ابو طالب کا دل پیچ گیا اور حضور کو بھی ہمراہ لے لیا۔

قافلہ منزلیں طے کرتا ہوا شام کے علاقے بھری پہنچا۔ بستی سے باہر ایک راہب "بھیرا" نامی کی کٹیا تھی۔ وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا اور بہت کم اپنے کرسے سے باہر نکلتا تھا۔ قافلے ہمہ شہ اس کی کٹی کے پار، ڈیرہ

ڈالتے یہکن اُسے کسی سے کوئی مرسد کارنہ ہوتا تھا۔ مگر اس پار ملکہ کے قافلے نے دہان پڑاؤ کیا تو بحیرا نے اس کی دعوت کی اور کہا کہ سب لوگ لکھانے کے لئے آئیں۔ اور کوئی پیچھے نہ رہنے۔

دعوت کے وقت سب چپے گئے، لیکن حضور کو کم عمری کے سبب سامان کے پاس چھوڑ گئے۔ دعوت شروع ہونے سے پہلے بحیرا نے پوچھا کہ کیا سب آگئے۔ لوگوں نے جواب دیا کہ لیں ایک چھوٹا سا لڑکا پیچھے ہے، اُسے سامان کی حفاظت کے لئے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرا کے اصرار پر آپ کو بھی بلا یا گیا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا اور بحیرا کی مہمان نوازی کی تعریف کی۔ لیکن وہ تو دُنیا و مافینہ سے بے خبر حضور کے پر ٹوڑ چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ کھانا ختم ہوا تو اسٹھ کر حضور کے پاس گیا اور کہنے لگا "میاں صاحبزادے! میں تمہیں لات و منات کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جو کچھ پوچھوں گما اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو گے" حضور نے فرمایا کہ جواب میں یہ شک صحیح دوں گا۔ لیکن مجھے ان بتوں کی قسم نہ دو۔ کیونکہ مجھے ان سے نفرت ہے۔

اس کے بعد بحیرا نے آپ کے حالات، نبند، عادات اور دوسری یاتوں کے بارے میں پوچھا۔ آپ جواب دیتے رہے۔ پھر حضرت ابو طالب کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ آپ ان کے کیا لگتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرا نے کہا اس لڑکے کا باپ نہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو ابو طالب

نے بتایا کہ آپ حضور کے والد نہیں چھاہیں۔

بیہرانے کہا اب میری تسلی ہو گئی ہے۔ آپ کا بھتیجا ایک عظیم شخصیت بننے والا ہے۔ اسے یہودیوں سے بچاؤ۔ میادا کوئی شرارت کریں۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے مال تجارت جلدی جلدی بیچا اور مکہ واپس تشریف لے گئے۔

(۸)

شرم و حیا

عزیز دوستو! ہمارے منہب میں ستر کو چھپانے کا سختی سے حکم ہے،

ستر پوشی حیا کا حصہ ہے اور حیا کو ایمان کا حصہ کہا گیا ہے۔

حدیث مبارک ہے:

ترجمہ:- ایمان کی ساٹھ سے کچھ زیادہ قسمیں نہیں اور ان میں ایک حیا بھی ہے۔
ستر ہے کیا؟ یعنی یہ کہ گھٹزوں سے اور اڑناف کے نیچے کا جسم کسی کے سامنے
ننگا نہیں ہونا چاہئے۔ قدیم عربوں میں ستر کو ڈھانپنے کا رداج نہ تھا۔
پچھے تو ہے ایک طرف، بڑے بھی ایک دوسرے کے سامنے ننگا ہونے میں
غار نہیں سمجھتے تھے۔ بلکہ ان کا تو یہ ایک طرح کا شغل تھا۔

لیکن اس معاشرہ میں پیدا ہونے کے باوجود حضورؐ شرم و حیا کے پُتنے

تھے۔ ہمیشہ اپنے جسم کو مناسب طریقے سے ڈھانپ کر رکھتے تھے بچپن کا
واقعہ ہے کہ محلتے کے دوسرا بچوں کے مہراہ کھیل رہے تھے کھیل یہ تھا
کہ سب پتھے بڑے پتھے پتھرا اٹھا کر لاتے اور انہیں ایک جگہ جمع کرتے
جاتے۔ عرب کے دستور کے مطابق بچوں نے تمدن پہن رکھتے تھے۔ پتھرا اٹھا کر جتنے
تو تمدن ٹانگوں میں چھنتے تھے۔ اس کا علاج انہوں نے یہ کیا کہ بعض نے تو تمدن
سرے سے ہی اتار کھینکے اور بعض نے اور پر اٹھا کر گئے کے ساتھ باندھ لئے۔

بچوں کھیل میں مصروف رہے۔ سب کی دیکھا دیکھی حضور نے بھی ایسا کرنے
کی کوشش کی تو نہ جانے کہاں سے انہیں ایک زور کا گھونسہ پڑا اور ساتھ ہی
آدا نہ بھی آئی۔ کہ خبردار اپنی تمدن باندھ کر رکھو۔

عزیز و اظاہر ہے یہ گھونسہ اور آدا نہ قدرت کی طرف سے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بنی کی برہنگی کو بچپن میں بھی گوارانہ کیا،

بچوں سے دلچسپی

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے بہت دلچسپی ملتی۔ بچوں سے پیار کرتے، شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتے اور ان کے لئے دعا فرماتے۔ انہی بچوں سے خاص طور پر بہت محبت سے پیش آتے۔ انہیں گود میں اٹھا لیتے۔ بہلانے کے لئے عجیب حرکتیں کرتے اور گلے سے طرح طرح کی آوازیں نکالتے۔ بعض دفعہ نہنے پہنچے آپ کے پیڑوں پر پیش اب بھی کر دیتے، مگر آپ پر راہ نہیں کرتے تھے۔ کھانے کے لئے بھجویں دیتے۔ پچے چبانہ سکتے تو دانتوں سے نرم کر کے کھلاتے۔

بچوں کے بارے میں فرماتے کہ یہ خدا کے باغ کے بچوں ہیں۔ بچوں کو جمکر کے درڈ لگراتے۔ جیتنے والوں کو آنعام دیتے۔ پچے درڈ لگاتے ہوئے آئٹ کے پاس پہنچتے تو بیٹھ جاتے یوں پچے آپ پر گہ جاتے۔ بچوں کو مہسانے کے لئے ان مذاق بھی کرتے۔

بچوں سے محبت اور شفقت کے سلسلہ میں حضور کی کمی ایک احادیث ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے۔

ترجمہ: جو شخص ہمارے بچوں پر رحم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں؟

۱۔ صحیح بنواری۔ جائز الارب۔ ۲۔ صحیح بنواری قیۃ الارب۔

(1)

دوکانوں والے

حضرت النبیؐ سے بہت رغبت تھی۔ انہیں نام کی بجائے "او دوکانوں والے" دیتا دا اولاد ڈستین، کہہ کر پکارتے رہا ہر بے ہر شاخ کے دوکان ہی ہوتے ہیں لیکن یہ حضورؐ کا حضرت النبیؐ سے مذاق تھا۔

(2)

ابو عمیر کا مولا

حضورؐ پھول کی دلجوئی فرماتے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور عنزوں میں ڈرکت فرماتے۔ ابو عمیرؓ نے بچپن میں مولا پال رکھا تھا اور اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ مولا ایک دن مر گیا۔ ابو عمیر اس کی صوت پر بہت پریشان ہوتے۔ حضورؐ کو پتہ چلا تو ابو عمیر کی باقاعدہ دلجوئی کی۔

ا-شامل ترمذی

۳

او دھوکے باز !

اسی طرح ایک اور صحابی عبد اللہ بن بشیر کا واقعہ ہے کہ پہنچن میں ایک دفعہ اُن کی والدہ نے انہیں انگور دے کر حضورؐ کی خدمت میں بھیجا ، عبد اللہ سے صبر نہ ہو سکا۔ سارا پہل راستے ہی میں کھا گئے اور ماں کو جا کر جھوٹ مروٹ کہہ دیا کہ حضورؐ کو دے آیا ہوں۔ ماں کو شک گزرا۔ حضورؐ سے پکھوا�ا تو پڑھ چلا کہ میاں صاحبزادے سارے کے سارے انگور خود ہی بڑپ کر گئے ہیں ، چنانچہ وہ بیٹے کو پکڑ کر سرزنش کے لئے حضورؐ کے پاس لے آئیں۔ آپ نے پیارے عبد اللہ کے کان پکڑ لئے اور فرمایا "او دھوکے باز" "او دھوکے باز" ریا غدر : یا غدر : یعنی انگور خود کھا گیا اور نام ہمارا لگا دیا۔

۲

نواسوں سے رُخت

اپنے نواسوں حضرت امام حسنؑ اور امام حسینؑ سے خاص طور پر بہت پیار تھا۔ وہ مسجد بنوی میں آپ کے پاس آ جاتے اور ادھر ادھر دوڑتے پھرتے آپ انہیں کمپج نہ کہتے۔ نماز کے دوران کبھی کبھار وہ آپ کی مانگوں میں سے

گزر جاتے۔ مگر آپ نے کبھی نہ ڈالا۔

حضرت حسن اور حضرت حسین سے آپ کی محبت اور شفقت کے کئی واقعات کا ذکر تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ جن میں سے کچھ یہاں بیان کئے جاتے ہیں۔

(5)

نئے پکڑے

جمعة المبارک کا دن تھا۔ حضور مسجد بنوی میں منبر پر تشریف فرماتھے۔ خطبہ شروع ہونے والا نقا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین نئے پکڑے پہنے تشریف لائے۔ حضور منبر سے نیچے اتر کر نواسوں کی طرف پڑھے اہنسی پیار کیا اور گود میں اٹھا کر اپنے پاس بٹھایا۔

(6)

طوبیل سجدہ

حضرت حسین کا واقعہ ہے کہ حضور مسجد بنوی میں هزار پڑھر ہے تھے۔ آپ کھیلتے کھیلتے آئے اور حضور سجدہ میں گئے تو پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ حضور نے سجدہ لمبا کر دیا کہ کہیں سراہنا سے بچہ نیچے نہ گز جائے

اور اُسے چوٹ آئے۔

(۶)

سوار بھی تو کسی سے کم نہیں

حضرت حسینؑ کا ہی واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضور اہنیں کندھوں پر
املاکا شے لگی سے گذر رہے تھے۔ راہ میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی۔ صحابی
نے کہا سبحان اللہ؛ سواری کتنی عمدہ ہے حضور نے اہنیں ٹوکتے ہوئے فرمایا۔
”سوار کی طرف بھی دیکھو، وہ بھی تو کسی سے کم نہیں۔“

(۷)

جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا

ایک دفعہ کسی شخص نے حضور کو اپنے نواسوں سے بے تحاشا پیار کرتے
دیکھا تو تعجب سے کہنے لگا۔ میرے دس بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی ان سے پیار
نہیں کیا۔ حضور یہ نہ آزدہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ کوئی فخر کی بات نہیں۔
تمہارے دل کو اللہ نے محبت کے جذبہ سے خالی کر دیا ہے، تو کوئی کیا
کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا ماید رکھ، جو رحم نہیں کرتا، اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔

۱۔ صحیح بخاری، بکتاب الادب۔

۹

بیٹے سے محبت

عربوں میں رواج تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لئے کسی دوسرے قیلہ کی عورت کے سپرد کر دیتے تھے۔ حضنور نے اپنے صاحبزادے حضرت ابی ایم کو اس مقصد کے لئے ایک نوہار کی بیوی کے حوالے کر رکھا تھا، جس کا گھر شہر سے باہر ایک اضافی بستی میں تھا۔ حضنور بیٹے کو دیکھنے کے لئے خاصاً فاصلہ طے کر کے وہاں تشریف لے جاتے۔ چھوٹا سا گھر تھا۔ لیکن آپ وہاں پہنچتے اور بچے کو گود میں لے کر پیار کرتے۔ پھر اسی صاحبزادے کی وفات ہوئی تو صدمے سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کی ایک صاحبزادی اُم کلثوم فوت ہوئیں تو بھی آنکھیں اشکبارِ حقیقیں۔

۱۰

اس سے کھینلنے دو

اُم خالد بنت خالد ایک معروف صحابیہ ہو گذری ہیں۔ بچپن میں اکثر اپنے والد کے ہمراہ حضرت نبی کریمؐ کی خدمت میں حاضر ہوتی تھیں، ایک دفعہ زرد رنگ کی نئی قمیض پہن کر حضنور کے پاس گئیں تو آپ نے

بیاس اور کپڑے کی تعریف کی۔ ان کے آبا، حضور سے پاتوں میں مصروف ہو گئے تو لڑکی آپ کی پشت پر جا کر ہر نبوت سے کھیلنے لگی۔ بابا پ نے دیکھا تو ڈالنا، لیکن سرکار دو جہاں نے منع کر دیا اور فرمایا، اسے کھیلنے دو، کوئی حرج نہیں؟

(11)

یہودی پچے سے شفت

سرورِ کائناتؐ کی یہ محبت و شفقت صرف مسلمان بچوں کے ساتھ ہی نہیں تھی بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک کرتے تھے۔ ایک یہودی رہنما آپ کے ہاں ملازم تھا۔ دو چار روز غیر حاضر ہا تو حضورؐ کو پریشانی ہوتی۔ کسی سے پچھپا ایسا تو پتہ چلا کہ بیمار ہے اور سبتر پہ پڑا ہے۔ یہ سُن کر آپ فوری عبادت کے لئے تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ بے سُدھ پڑا ہے۔ اور زندگی کے آثار تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ آپ سر ہلانے پڑھ گئے۔ سو چاکہ اس معصوم نے اتنا عرصہ میری خدمت کی ہے اور اب مناسب نہ ہو گا کہ جہنم کا ایندھن ہے۔ چنانچہ شفقت سے سر پر ہاتھ پھرا۔ پچے نے آنکھیں کھولیں تو حضورؐ نے اُسے اسلام قبول کرنے کے لئے فرمایا۔

۱۔ آپ کے دو نوں شاذوں کے درمیان ابھرنا گوشٹ، بڑے تیل کی مانند تھا۔

۲۔ صیبح بخاری:

باپ پاس ہی کھڑا تھا۔ بچے نے اس کی طرف دیکھا، گویا کہ اجازت چاہ رہا ہو۔
 باپ نے کہا کوئی حرج نہیں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یقیناً تھا رے بھلے
 میں ہیں۔ ان کی بات مان لو۔ پس بچہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس پر حضور
 بہت خوش ہوئے۔ وہاں سے نکلے تو فرمایا۔ خدا کاشکر ہے کہ وہ آگ
 سے بچ گیا!

۱۔ صحیح بخاری

صداقت و امانت

صداقت کا مطلب ہے، پسی بات کہنا اور امانت کا مفہوم ہے، اب سپرد کی ہوئی چیز کی دیانتداری سے حفاظت کرنا۔ یہ دونوں خصوصیات لازم و ملزوم ہیں یعنی سچا آدمی، امانت دار بھی ہو گا۔ اخلاقی خوبیوں میں صداقت و امانت افضل تین ہیں۔ صداقت، ذاتِ الہی کی صفات میں سے ہے۔ اور سب سے زیادہ سچی ذات، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔

قرآن حکیم کی سورہ نبار میں قیامت کے وعدہ کے سلسلہ میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَهُنَّ أَهْنَدَقُ هِنَّ اللَّهُ حَدِيْثًا دَسَدَ - ۱۱

ترجمہ:- اور بات میں اللہ سے طریقہ کہ سچا کون ہو سکتا ہے۔

قیامت کے روز کے بارے میں سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے۔

هذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ حِسْدُ هَمْ دَمَدَه - ۱۶

ترجمہ:- اس دن پسکے لوگوں کو ان کا سعی کام آئے گا۔

سعی کا سامنہ دینے کے سلسلہ میں سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُوْنُو مَعَ الصَّادِقِينَ دَوْبَه - ۱۵

ترجمہ:- اے ایمان والو! خدا سے ڈر اور سچوں کا ساتھ دو۔

امانت کے بارے میں سورہ نساء میں آتا ہے:-

إِنَّ اللَّهَ يَا مُرْكَمْ وَأَنْ تُؤَدُّ أُلَّا مُنْتَ إِلَيَّ أَهْلِهَا (نساء:-۸)

ترجمہ:- بیشک تھیں اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دیا کرو۔

امانت کی حفاظت کے بارے میں سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَ تَخُونُوا أَمْتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (انفال:-۲۰)

ترجمہ:- اور امانتوں میں جان بوججو کر خیانت نہ کرو۔

احادیث نبوی میں امانت پر بہت زور دیا گیا ہے۔

حدیث مبارک ہے:-

ترجمہ:- جس میں امانت نہیں اسی میں ایمان نہیں۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پستے اور ایسا مدار شخض تھے۔ بنت سے پہلے بھی لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھ جاتے۔ حتیٰ کہ ہجرت کے وقت بھی آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں موجود تھیں۔ جو مدینہ روانہ ہونے سے پہلے آپ نے اپنے چھاڑا دبھائی حضرت علیؓ کے سپرد کیں۔ تاکہ وہ ان کے مالکوں کو لوٹا سکیں، مکہ والوں نے آپ کو صادق اور امین کا لقب دے رکھا تھا۔ اعلانِ بتوت کے بعد گودوہ آپ کے سنت دشمن ہو گئے، لیکن آپ کی سماقی اور دیانتداری یہ کبھی شبہ نہ کیا۔

۱

آپ کی صداقت پر ابوسفیان کی گواہی

اُہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ابوسفیان ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ردم گئے۔ روم میں ہرقل نامی بادشاہ کی حکومت تھی اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے نئے دین کے بارے میں پہلے ہی ٹسٹ چکا تھا، ایک دن ابوسفیان دربار میں پیش ہوئے تو ہرقل نے ان سے حضور، ان کے ساتھیوں اور دینِ اسلام کے متعلق مختلف سوالات کئے۔ ابوسفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے جی کھول کر پرائیاں کیں۔ ہرقل خاموشی سے سنتا رہا۔ ابوسفیان کا بیان ختم ہوا تو اس نے کہا۔

”آپ کے کہنے کے مطابق محمد ابن عبد اللہ اللہ کا رسول نہیں اور غلط بیان سے کام لے رہا ہے۔ صرف آنابتا میں کہ اس نئے بنی کو آپ نے روزمرہ زندگی میں کیسا پایا۔“

ابوسفیان کو اعتراض کرنا پڑا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد پست انسان ہیں اور انہوں نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس پر ہرقل نے بڑے وثوق سے کہا کہ جس شخص نے کبھی انسانوں کے معاملے میں جھوٹ نہ بولا ہو اور جسلا اللہ کے معاملے میں کیا جھوٹ بولے گا وہ

یقیناً اللہ کا نبی ہے۔

ابوسعیان اور اس کے ساتھیوں کے پاس اس دلیل کا کوئی توتر نہ تھا،
لہذا چنپے ہو رہے ہے۔

عزیز دوستو! آپ نے دیکھا، کہ سبھی میں کتنی طاقت ہے، میں وہ
طاقت تھی جس نے یہ ترین دشمنوں سے بھی آپ کو صادق دامن کا لقب
دلایا۔ اور اسی طاقت نے ہی روم کے بادشاہ ہرقل کو آپ کی نبوت
کی تصدیق پر مجبور کیا۔

(۲)

نصیر بن حارث کی گواہی

جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے تھی اکرمؐ کے پدر ترین دشمن بھی آپ کے مردار
کی عظمت، صداقت اور امانت کے معتبر تھے۔ مذہبِ اسلام کے باہرے
میں آپ کی بات تک نہ سنتے لیکن اپنی محققوں میں آپ کی عادات و خصائص کی
تعریف کرتے۔ آپ کے ان دشمنوں میں ایک شخص نصیر بن حارث بھی شامل
 تھا۔ ایک دن قریش کے سرداروں کی محفل جمیع تھی۔ نیا دین اور نبی اکرمؐ کی ذات
 اقدس نزیر بحث تھی۔ کچھ مذہب اسلام کی برائیاں کر رہے تھے تو کچھ حضورؐ کی
 ذات میں کیڑے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک بولا، محمدؐ جادوگر ہے۔

دوسرے نے کہا وہ دیوانہ ہے۔ تیسرا بولا اس کی باتیں تو شاعری معلوم ہوتی ہیں، عرض جتنے منہ آتی باتیں ۔

نصیر بن حارث آج خلاف توقع خاموش ساختا۔ جب سب اپنی اپنی ہانک پچے تو بڑی ممتازت سے بولا۔ اے قریش والو! تم غلطی پر ہو، محمد کا بچپن رکھن اور جوانی آپ کے سنسنے گزرسے ہیں، آج تک اس نے نہ تو جھوٹ بولا اور نہ کوئی غلط بات کی۔ اب جبکہ اس کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ تو ہم اُسے جادوگر، دیوانہ اور شاعر بنا رہے ہو۔ بخدا ہم نے زمانہ دیکھا ہے۔ جادوگروں، دیوانوں اور شاعروں سے بھی پالا پڑا ہے۔ لیکن محمد میں تو ان جیسی کوئی بات بھی نہیں، اے قریشی صردار! عقل کے ناخن لو، یقیناً کوئی بیکت پڑا دا قہر رونما ہو چکا ہے۔ جس کا ہم احساس نہیں کر رہے ۔

دوسٹو! ذرا غور کریں۔ حضنور کی ذات کا یہ تجزیہ آپ کے ایک بہت بڑے دشمن نے کیا ہے، یہ دوگ دل کی گہرائیوں سے حضنور اور دین اسلام کو برحق سمجھتے تھے۔ لیکن زبانوں پر تالے پڑے ہوئے تھے اور اقرار کی توفیق نہ ہو سکی۔ یہی نصیر بن حارث جنگ بدربیں شامل تھا اور گرفتار ہو کر قتل ہوا۔

۳

ابو جہل کی گواہی

آپ نا ایک اور بہت بڑا شمن ابو جہل بھی آپ کی صداقت و امانت کا مترن مقا۔ اس نے خود حضور سے لہا تھا کہ ہمیں آپ کی سچائی اور دیانت پر کوئی شبہ نہیں اور نہ ہم آپ کو جھٹلاتے ہیں ایکن جو کچھ تو لا یا ہے دین اسلام، اور جو تو کہتا ہے۔ ہم اس کو نہیں مانتے اور اس کو جھٹلاتے ہیں۔

بدر کی بُنگ کا واقعہ ہے کہ دونوں فوجیں آئنے سامنے خیبر زن تھیں۔ باقاعدہ لڑائی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ کفار کی فوج کے بعض لوگوں کو ایک پریشانی لاحق تھی کہ محمد کا دین غلط نہیں ہو سکتا۔ اور وہ آئیں ہیں اس موضوع پر گفتگو بھی کرتے۔ ایک قریبی افسوس این شریق ابو جہل سے تہائی میں ملا اور کہنے لگا کہ اس وقت کوئی تیسرا شفیع موجود نہیں ہے۔ تو مجھے سچ سچ بتادے کہ آیا محمد سچا ہے یا جھوٹا۔ ابو جہل نے جواب دیا۔ بیشک محمد سچ بوتا ہے اور اس نے کبھی غلط بیانی نہیں کی۔

حضور نہ صرف خود بے حد پسے اور دیانتدار شخص تھے بلکہ دوسرے میں بھی یہ صفات دیکھنا پسند فرماتے تھے۔ اس سلسلہ میں یہ ہے دو واقعات درج کئے جا رہے ہیں۔

(۲)

بد دیانت انج فروش

ایک دن رسول ﷺ مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک انج فروش کو دیکھا کہ گندم کی ڈھیری لگائے گاہک کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ حضور نے حال احوال پوچھا اور یونہی ڈھیری کے اندر ہاتھ ڈالا تو نبی مسی محسوس کی۔ آپ حیران ہوئے کہ بظاہر گندم غشک اور صاف ستری ہے تو نبی کہاں سے آگئی۔ دکاندار سے دریافت فرمایا تو بولا کہ رات بارش کی وجہ سے کچھ گندم بھیگ کر گئی تھی اور یہ اس کی نبی ہے۔ حضور یہ سُن کر سخت ناراضی ہوئے اور فرمایا "اوْ دَشِنْ دِنْ بَلِلِ الْجَنْدَمْ تَهِيْسْ ڈھیری میں اوپر ڈالنا چاہیے تھی۔ تاکہ پہلی ہی نظر میں گاہک کو نظر آجائی۔ اسے یوں چھپا کر بیخنا تو صرتھا بد دیانتی اور دھوکہ دہی ہے۔" پھر فرمایا:

حَدَّثَنَا مَنْعَلٌ فَلَيْسَ مِنَ

ترجمہ: جو شخص دھوکہ دیتا ہے وہ میری جماعت سے خارج ہے۔

(۵)

صرف جھوٹ چھوڑ دو

ایک دفعہ ایک شخص رسول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ ﷺ

میں بہت گنہگار ہوں۔ دینا کی ہر برائی مجھ میں موجود ہے۔ نیکی سے کوئی رغبت نہیں
نماذ روزے کے پاس تک ہنس پھٹکتا، چھینا جھٹپتی، چوری سے کوئی عار نہیں۔
مجھوٹ اور غبیت لکھتی میں ہے۔ خدا کے لئے میری دستیگری فرمائیں اور بہادیت
کی راہ پر لے آئیں۔ مزید عرض کی کہ عادی گنہگار ہوں، سب برائیاں یکدم چھوڑنا
محال ہے۔ کسی دفعہ کوشش کر چکا ہوں۔ لیکن کامیابی نہیں ہوتی۔

حضرت نے یہ ردِ داد سنی تو اس شخص کو پاس بٹھالیا۔ شفقت سے پوچھا کہ
کیا ان سب میں سے صرف ایک برائی ترک کر سکتے ہو۔ وہ بڑی خوشی دلی سے
بولا "کیوں نہیں یا حضرت، ایک برائی چھوڑ دینا تو میرے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں"
آپ نے فرمایا کہ آج اور اسی وقت سے جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ وہ شخص
مرمند ہو گیا۔ والپی کی اجازت چاہی تو حضرت نے دو روز بعد دوبارہ
آنے کے لئے کہا۔

وہ شخص والپی گھر آیا تو نماز کا وقت ہو چکا تھا، سوچا کہ پہلے کبھی نہیں پڑھی
تو آج بھی کیا ضرورت ہے۔ لیکن دوسرا سرے ہی لمبے خیال آیا کہ پرسوں اگر حضرت
نماذ کے بارے میں پوچھ لیا تو خواہ محظاہ شرمندگی ہو گی۔ جھوٹ نہ بولنے کا
تو دہ دیسے ہی وعدہ کر چکا تھا۔ چنانچہ اس وقت اٹھا اور نماز ادا کی۔ شام کو
دوستوں کی محفوظی تو سب گپیں ہانکنے اور دوسروں کی غبیت میں لگ گئے۔ اس
شخص نے سوچا کہ اگر دہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گی تو حضرت کو کیا جواب

دے گا۔ چنانچہ چپ رہا اور بڑے دستوں کی صبحت سے کنارہ کر دیا۔ رات ہوئی تو چوری کرنے کے ارادے سے املا۔ لیکن اسی لمحے خیال آیا کہ چوری کی سچ پسح رپورٹ تو رسول خدا کو دنیا مشکل ہو جائے گی۔ چنانچہ ارادہ ترک کر دیا۔ حسبِ وعدہ دو دن وہ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو بالکل بدلا ہوا انسان تھا۔ ساری کیفیت مُن کر حضورؐ بہت خوش ہونے اور فرمایا کہ دیکھا مر جھوٹ چھوڑنے سے مہاری سب برائیاں دور ہو گئی ہیں اور تم ایک اچھے انسان بن گئے ہو،

پیارے بچو! ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ بچے کبھی کبھی جھوٹ بول لیتے ہو۔ یاد رکھیں جھوٹ سب برائیوں کی چڑھتے ہے۔ جھوٹ کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، اور کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا۔ آئیے عہد کریں کہ پیارے نبی کی تعلیمات پر ممل کرتے ہوئے ہم آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے،

۶

جھوٹ بہر حال جھوٹ ہے

جھوٹ کی کئی قسمیں اور درجے ہیں۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ جس جھوٹ سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس کا کوئی حرج نہیں۔ بلکہ وہ اُسے جھوٹ سمجھتے ہی نہیں۔ ہم کئی دفعہ بچوں سے وعدے کر لیتے ہیں۔ جنہیں پورا کرنے کا کوئی ارادہ

نہیں ہوتا۔ اور سوچ لیتے ہیں کہ کچھ دیر بعد بچہ خود ہی بھول جائے گا۔ یہ بھی جھوٹ ہی کی ایک قسم ہے اور بنی کریمؐ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایک صحابی عبد اللہ بن عامرؓ کے بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک روز حضورؐ نے گھر تشریف لے گئے۔ عبد اللہ ہاڑہ گلی میں کھیل رہے تھے۔ ماں کو ضرورت محسوس ہوئی تو آواز دے کر بلایا۔ عبد اللہ کھیل میں اس قدر مگن تھے کہ بلادے پر توجہ نہ دی۔ اس پر ماں نے کہا اندر آؤ میں تمہیں ایک چیز دیتی ہوں۔

حضرتؐ نے مسماۃ خاتون سے پوچھا کہ وہ بیٹے کو کیا چیز دے گی۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہؐ! ایک کھجور دے دوں گی۔ حضرتؐ نے فرمایا مٹھیک ہے لیکن اگر تمہارا ارادہ کچھ نہ دینے کا ہوتا۔ تو تمہارا یوں لا بیح دے کر بلاناجھوٹ شمار ہوتا۔ اس تربیت کا مقصد یہ تھا کہ بچے پر غلط اثر نہ پڑے۔ وہ چکر بازی نہ کھیں۔ اور سچائی اور راستی کی راہ پر حلپیں۔

(۷)

پچھوٹ سے چھوٹا چھوٹ بھی گناہ ہے

قرآن حکیم اور احادیث میں جھوٹ سے بچنے کے بارے میں زیادہ تاکید نہیں، تو صحابہ کو تشویش ہوئی کہ کہیں وہ انجانے ہی میں نہ مارے جائیں اور ان کی چھوٹی

چھوٹی باتیں جھوٹ لکھی جائیں۔ چنانچہ شک و شبہ دور کرنے کے لئے وہ اکثر حضورؐ^ر
سے پوچھ لیا کرتے تھے۔

ایک روز ایک صحابی خاتون حضرت اسماءؓ بنت یزیدؓ حضورؐ کی خدمت
میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ بعض دفعہ ہمیں کسی چیز کی خواہش یا اضدادت ہوتی ہے۔
مگر پوچھنے پر انکار کر دیتے ہیں، تو کیا یہ بھی جھوٹ میں شامل ہو گا۔ حضورؐ نے فرمایا
ہر چھوٹ سے چھوٹا جھوٹ بھی جھوٹ لکھا جاتا ہے!

عزیز دوستو! یہ عام دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر جائیں اور وہ ہمیں
چاٹے یا کھانے کے لئے کہیں تو اکثر اوقات ہم یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں کہ جوک
ہیں۔ حالانکہ اس چیز کے لئے دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ لہذا یہ تکلف بھی جھوٹ
شمار ہو گا۔

بعض لوگ مخفی دوسروں کو ہنسانے یا خوش کرنے کے لئے جھوٹ گھولتی ہیں،
عام زبان میں اسے گپ بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی گناہ ہے اور حضورؐ نے ایسے شخص پر
افسوس کا انہصار کیا ہے؟

جُرُأَت و شجاعت

ہمارے مذہب میں شجاعت اور بہادری کو بے حد اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں قدریہ، قادر، مقتدر، قوی، جبار، قاہر اور غالب شامل ہیں۔ ان ناموں کے معانی پر غور کریں تو ان میں قوت، غلبہ، رعب اور دہدیہ کا تاثر ملتا ہے۔ قرآن حکیم میں کئی جگہوں پر شجاعت اور ثابت قدمی کی تلقین کی گئی ہے ارشاد ہوتا ہے : **يَا يَاهُهَا الَّذِينَ أَمْنُوا إِذَا الْقِيَمُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا
ذَهَفُوا فَلَا تُؤْكِدُهُمْ إِلَّا دُبَارُ الْأَنْفَالِ** (۲۰- انفال)

ترجمہ:- اے ایمان والو؛ جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو تو انہیں پشت مت دکھاؤ۔ مسلمانوں کی تعریف میں فرمایا ہے:-

آشِدَّاً وَ عَلَى الْكُفَّارِ (فتح - ۴)

ترجمہ:- وہ کافر دل پر بھاری ہوتے ہیں۔

ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے:-

يَا يَاهُهَا الَّذِينَ أَمْنُوا إِذَا الْقِيَمُمْ فِتَّةً فَاشْبُعُو رَأْنَفَالِ (۷- رانفال)

ترجمہ:- اے ایمان والو؛ جب تم کسی دستہ کے مقابلہ میں آؤ تو ثابت قدم رہو۔

مذہبِ اسلام میں بزرگی اخلاقی عیوب سمجھی جاتی ہے ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، ان میں بزرگی شامل ہے۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرمات و شجاعت میں شانی ہیں رکھتے تھے۔ مشکلات سے گھراتے، خطرات سے خوفزدہ ہوتے۔ زندگی میں کئی ایسے کھنڈن مراحل آئے کہ کوئی دوسرا ہوتا تو پریشان ہو جاتا۔ لیکن آپ نے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ میدانِ جنگ میں حضور اپنی جگہ پر قائم رہتے تھے۔ لڑاتی تیز ہوتی تو صحابہ آپ ہی کی پناہ ڈھونڈا کرتے تھے۔ صحابہ میں سب سے زیادہ دلیر اور بہادر وہی شخص ہوتا تھا، جو آپ کے ساتھ جم کر کھڑا رہ سکتا تھا۔ یہاں اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ حضور نے ہمیشہ دفاع اور حفاظت کے لئے توار اُمّتی خود کبھی پیش قدمی نہیں کی۔ لیکن جب موقعہ آن پڑا تو پھر یہ سمجھے ہئے کہ نام نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا:-

ترجمہ:- اے لوگو! وہمن سے ملنے کی تبات کرو اور اللہ سے امن و عافیت چاہو۔ مگر حبِ مقابلہ ہو جائے تو صبر کرو اور لقین جانو کہ جنت تواروں کے سائے میں ہے۔

غزوہ بد مریں مسلمانوں کی تعداد ۳۱۳ تھی لیکن انہوں نے حضور نبی کریم

۱۔ صحیح بخاری، بتاب الجہاد ۲۔ صحیح بخاری، بتاب الجہاد

کی پُر جوش قیادت میں ایک ہزار کافروں کو مار بھگایا۔ غزوہ احمد میں حضورؐ
کے دیدان مبارک شہید ہوئے لیکن آپ میدان میں ڈٹے رہے یعنی غزوہ خینہ
میں تو ایک موقع پر دشمن کا دباؤ اس قدر بڑھا کہ حضورؐ کے آس پاس کے
لوگ منتشر ہو گئے۔ لیکن آپ اپنی جگہ پر قائم رہے اور آپ کی جرأت مندی دیکھ
کر باقی ساتھی بھی ملٹ آئے۔ پرہ سالار کی حیثیت سے حضور فوج کے قلب میں موجود
ہوتے تھے۔ آپ نے زندگی میں پندرہ، سولہ غزوات میں حصہ لیا لیکن آپ کے ہاتھوں
صرف دو آدمی مارے گئے۔ جن میں ایک کا نام ابی ابن خلف تھا۔

ذیل میں حضور بنی اکرمؓ کی شجاعت اور بہادری کے چند واقعات درج
کئے جا رہے ہیں۔

①

ابی ابن خلف کا قتل

جیسا کہ اور پر بیان کیا گیا ہے۔ حضورؐ کے ہاتھوں صرف دو آدمی قتل ہوئے،
جن میں ایک کا نام ابی ابن خلف تھا۔ ابن خلف ملکہ کا ایک جنگجو سردار تھا۔
پدر کی لڑائی میں گرفتار ہو گیا۔ روایج کے مطابق فدیہ دیکر رہا ہوا تو حضورؐ
کو مخاطب کر کے ہنابت تکبر سے کہنے لگا۔

میرے پاس ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے جسے میں نے دانہ پر پالا ہے ماں

پر بیٹھ کر تمہیں قتل کر دوں گا"

حضور نے جواب دیا۔ "نہیں اشار اللہ تو میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ وقت گزرتا گیا۔ اگلے ہی سال کفار مکہ پھر سے مدینہ پر چڑھ دوڑے۔ اعد کے مقام پر مقابلہ ہوا۔ ابن خلف بھی شامل تھا۔ اور اپنے عہد کو پورا کرنے کے لئے چین، حضور پر نظر پڑی تو گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ چند جان نثار راہ میں حائل ہوئے تو حضور نے فرمایا "اسے آنے دو یہ میرے ہاتھ سے قتل ہو گا۔ پاس ہی ایک صحابی حارث بن الصہبہ کھڑے تھے۔ آپ نے اُن کے ہاتھ سے نیزہ لیا اور تاک کر ایسے مارا کہ اپنی کی پسلیوں میں پیوست ہو گیا۔ وہ تو درد سے دیوانہ ہو گیا۔ چیختا چلتا ایسے قدموں بجا گا۔ لوگوں نے زخم دیکھا تو کہا کہ تم تو فضول داویلا کر رہے ہو، زخم تو کچھ بھی نہیں ہے۔

مگر اپنی کو چین کہاں اوہ تو درد سے بے کھل ہوا جا رہا تھا۔ کہنے لگا جس قدر تخلیف مجھ سے ڈہ اگر سب لوگوں کو یا نٹ دی جائے تو سمجھی ہلاک ہو جائیں۔ محمدؐ سعیج کہتے تھے کہ تو میرے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ انہوں نے نیزہ تو ناحق استعمال کیا۔ خدا کی قسم وہ تو مجھ پر بھوک عجمی دیتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔" فوج کے لوگ اُسے تسلی دے کر واپس لے آئے، لیکن ابھی مکہ سے چھپے میل ادھر ہی تھا کہ سُرف کے مقام پر مر گیا!

۲

ہشر کین کو مُنہ توڑ جواب

اعلانِ نبوت کے بعد حضورؐ نے اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی تو مختلف کا ایک طوفانِ اُسٹھ کھڑا ہوا، حضورؐ اور ان کے سامعین کو طرح طرح کی ذہنی اور سماںی اذیقیں پہنچائی جاتے لگیں۔ مختلفین آپ پر آوازے کتے، مذاق اڑاتے، حتیٰ کہ گایاں تک دیتے۔ ان لوگوں میں ایک شخص عبد اللہ بن امیةٰ فخرِ حبی پیش پیش تھا۔

ایک دن یوں ہوا کہ حضورؐ حرم پاک کی طرف جا رہے تھے کہ یہ شخص نہستہِ روك کر کھڑا ہو گیا اور اللہ سیدھی باتیں کرنے لگا۔ بولا "محمد! تم کہتے ہو کہ مہارا خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو مارے مارے کیوں پھرتے ہو، اُسے کیوں نہیں کہتے کہ مہارے لئے ایک خزانے کا بندوبست کر دے تاکہ عیش سے زندگی بسر کر سکو؟"

حضرت مجید اس فضول بات کا کیا جواب دیتے، خاموش رہے۔ اس پر عبد اللہ بن امیةٰ پھر بولا:

"لوگوں کو یوں آپ کی زبانی یقین نہیں آئے لگا اور اپنے مُنہ میاں مسخو بخش سے فائدہ بھی کیا۔ اپنے اللہ سے کہو کہ مہارے ساتھ ایک فرشتے کی دلیوٹی لگادیں، جو جگہ جگہ آپ کی رسالت کی تصدیق کرتا ہے۔"

ظاہر ہے اس پیغام کا بھی کیا جواب ہو سکتا تھا۔

رسولِ خداً خاموش رہے۔ یہ تو جاہلیوں والی باتیں تھیں اور جہالت کا جواب خاموشی ہی ہوتا ہے۔ آپ حرم میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں بھی دشمنوں کی ایک جماعت جمع ہے اور سب آپ ہی کے خلاف بائیں کر رہے ہیں۔ ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ نے جگر اسود کو بوسدیا اور کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ جو ہبھی آپ مشرکین کی ٹولی کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ پر طنز پہنچلے کئے۔ آپ پر دادہ کئے بغیر دہار سے گزر گئے۔ دوسری دفعہ وہاں سے گزرے تو پھر انہوں نے دہی حرکت کی۔ آپ اس بار بھی خاموشی سے طواف کرتے رہے۔ تیسرا مرتبہ انہوں نے گستاخی کی تو آپ کفار کی اس جماعت کے سامنے رُک گئے اور فرمایا:-

اے معاشر قریش! اچھی طرح سُن لو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں تم جیسے لوگوں کے لئے قتل اور ذبح لے کر آیا ہوں۔^۱
یہ سننا تھا کہ مشرکین کے تو ہوش و حواس اڑ گئے۔ رسولِ خدا کی یہ دلیرانہ گفتگو اپنے کی بات تھی۔ ان کا تو خیال تھا کہ محمدؐ ہماری ہرزہ سرانی سے ننگ اکر حرم سے چلے جائیں گے۔ لیکن اس مونہ تو جواب نے انہیں پریشان کر دیا۔
قتل و ذبح والی بات سن کر تو گویا ان کے پاؤں تلے سے زمین بُرک گئی اور وہ سکتے میں آگئے۔ رسولِ خدا نے انہیں اسی حال میں چھوڑ کر طواف مکمل کیا اور واپس تشریف لے گئے۔

ابو جہل کی سبکی

نبوت کے اعلان کے بعد کچھ عرصہ تک تو نبی کریمؐ گھر پر نماز ادا کرتے رہئے پھر اللہ کے حکم سے حرم کعبہ میں نماز پڑھنے لگے۔ پتھروں کی پستش کرنے والے کفار مکہ کے لئے عبادت کا یہ اندازہ بالکل نیا اور انوکھا تھا۔ وہ تو بتوں کو پوچھتے تھے، ایک آن دیکھے خدا کی عبادت کا تصور اُن کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ چنانچہ وہ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ لیکن حضورؐ کو کچھ کہنے کی وجہ کسی کو نہ ہوئی۔

ہوتے ہوتے بات ابو جہل تک پہنچی، جو بے حد دولت مند ہونے کے علاوہ قریش کا سردار بھی تھا اور اس پر طریقہ یہ کہ اپنے تیکر اور جہالت کے سبب کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ حرم کعبہ میں نماز کا صن کر آگ بگولا ہو گیا۔ ساہیوں سے کہنے لگا کہ ذرا مجھے مجھی تو دکھاو، کہ محمدؐ کس طرح اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوا۔ سرکارِ دو عالمؐ بڑی شان بے نیازی سے تشریف لائے اور نماز کی نیت باندھ لی۔ ابو جہل فاصلے پر کھڑا حضورؐ کے نماز پڑھنے کے انداز کو غور اور دلچسپی سے دیکھتا رہا۔

جو نہی آپ سلام پھیر کر فارغ ہوئے۔ بڑے تیکر سے اکٹا اکٹا کر جلتا ہوا آپ کے پاس پہنچا اور اس قسم کی عبادت سے حضورؐ کو سخت لہجے میں منع کرنے لگا۔ لیکن سرکارِ دو جہاں نے اس سے خوفزدہ یا مقاشر ہوئے

بغیر اُسے زبردست ڈانٹ پلانی۔ ابو جہل کو اس قسم کے جواب کی توقع نہ تھی؛ وہ تو سمجھتا تھا کہ حضور اس کی ظاہری شان و شوکت سے مرعوب ہو جائیں گے۔ لیکن اوھر تو معاملہ ہی دوسرا تھا۔ اس کا سامنا ایسے شخص سے ہوا تھا جو اللہ کے سوا کسی سے خوفزدہ ہونا جانتا ہی نہ تھا۔ ابو جہل کے تو گویا تن بدن میں آگ لگ کئی۔ کہنے لگا "محمد تم مجھے ڈانٹتے ہو۔ کیا تم جانتے نہیں کہ میں مکار کا سب سے امیر اور بااثر سردار ہوں۔ لات و منات کی قسم میں اس ذلت کا بدلہ ضرور لوں گا اور تمہارے مقابلے میں نوجوان سواروں سے جنگل بھر دوں گا۔"

وہ اول فول یکتا رہا۔ لیکن رسالت مابپ کو اس کی ان دھمکیوں کی پردہ کب تھی۔ آپ اطمینان سے عبادت میں مصروف رہے۔ اس واقعہ سے ابو جہل کی بہت سیکی ہوئی، غفت مٹانے کے لئے کہنے لگا۔ خیر آج چھوڑے دیتا ہوں۔ آئندہ کبھی حرم میں نماز ادا کرنے کی جرأت کی تو مجرا پیش آؤں گا۔ لیکن حضور ان دھمکیوں کی پردہ کے بغیر حرم میں نماز کے لئے تشریف لے جاتے رہے۔

چند ہی روز گذرے ہوں گے کہ ابو جہل نے پھر آپ کو حرم میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ آپ سجدے کی حالت میں تھے کہ وہ تیزی سے آپ کی طرف لپکا کہ گردن مبارک پر پاؤں رکھ دے۔ اس ارادے سے ۱۔ مشہور تجویں کے نام۔

وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ سنت خوفزدہ ہو کر الٹے پاویں بھاگا اور مختصر تھر کانپنے لگا۔ حرم کے صحن میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو قہقہہ رکا کر ہنس پڑے۔ ابو جہل سے خوف کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ میں نے جونہی محمد پر حملہ کرنے کا سوچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تند و تیز آگ مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ یہی نہیں بلکہ پڑے پر دل والے ایک ہنات خونخوار پرندے کو بھی دیکھا جو مجھ پر جھپٹنے ہی والا تھا۔ لوگوں نے اس بات پر ابو جہل کا خوب مذاق اڑایا۔

غزینہ دوستو! یہ آگ اصل میں دوزخ کی آگ تھی اور پڑے بڑے پر دل والا خوفناک پرندہ، فرشتہ تھا جو اللہ کے حکم سے حضور ﷺ کی حفاظت کے لئے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور برگزیدہ بندوں کی حفاظت خود فرماتے ہیں۔ اور یوں دشمنوں کے دل میں ان کا خوف و بدربہ بُٹھا دیتے ہیں۔

(۳)

پہلوان سے کشتی

مکہ میں ایک شخص رہتا تھا۔ کلدہ بن اسید بن خلف اس کا نام تھا۔ بہت طاقتور اور مانا ہوا پہلوان تھا۔ بدربے کا بہ عالم تھا کہ آس پاس کے علاقوں میں کوئی بھی اس سے کشتی لڑنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ وہ اکثر اپنی جہانی

حالت کا مظاہرہ کرتا۔ وہ یوں کہ اونٹ یا گھائے کی کھال پر جم کر کھڑا ہو جاتا۔ اور وس طاقتور نوجوانوں کو اُس سے اپنے پاؤں کے نیچے سے چینچنے کے لئے کہتا۔ وہ بے چار سے زور لگا لگا کر نڈھال ہو جاتے لیکن کلدہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ملتا تھا۔

اور وہ کسی طرح یہ شخص بھی مشترک تھا۔ پیغمبرِ اسلام اور ان کی تعلیمات کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ اگر محمد اُسے کشتی میں پچھاڑ دیں تو وہ مسلمان ہو جائیگا، حضورؐ ٹالتے رہے لیکن جب اصرارہ زیادہ ٹھہر گیا تو آپ مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے۔ جس کسی نے سنا حیران ہوا کہاں کلدہ جیسا شہزادہ پہلوان اور کہاں درمیانے جسم والے حضورؐ۔ بظاہر دونوں کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔

مقررہ وقت پر بے شمار لوگ تماشہ دیکھنے کے لئے جمع ہو گئے۔ زیادہ تعداد کفار کی تھی جو اپنے پہلوان کے ہاتھوں پیغمبرِ اسلامؐ کی شکست کا منتظر دیکھنے کی خواہش دل میں لے کر آئے تھے۔ حضورؐ با قاعدہ پہلوان تو نہ تھے لیکن اُس زمانہ کے رواج کے مطابق اس فن سے واقعہ حزور نہ تھے۔ مقابلہ شروع ہوا ہی تھا کہ آپؐ نے کلدہ کو زمین پر ہٹخ دیا۔ وہ چل دیا کہ ابھی تو میں تیار بھی نہیں ہو پایا تھا۔ آپؐ نے غفلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ چنانچہ دوبارہ مقابلہ ہوا۔ اس بار بھی حضورؐ جیت گئے۔

کلدہ نے پھر واویل کیا۔ غرض کی بار حضورؐ نے اُسے پچھاڑا۔ لیکن وہ بھی پرے

درجے کا ہٹ دھرم تھا۔ وعدہ کے مطابق مسلمان ہونا تو دُور کی بات تھی۔
کہنے لگا۔ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے جادو کے ذریعے سے اُسے شکست
دی ہے، اور نہ طاقت میں اُن کا اس سے کیا مقابلہ۔

(5)

بھرت کی رات

بھرت کی رات آپ مکہ سے نکلے تو پچھن کے دورت حضرت ابو بکر صدیق
ہمراہ تھے۔ کچھ سفر کے بعد ستانے کی غرض سے غارِ ثور میں قیام فرمایا۔ کفار مکہ
بھی پیچھا کرتے کرتے غار کے سرے تک آپ پہنچے، حضرت ابو بکر صدیق یہ منتظر
دیکھ کر گھبرا گئے۔ مگر حضور سردار کائنات پورے اطمینان کے ساتھ نماز
پڑھتے رہے۔ فارغ ہوئے تو حضرت ابو بکر سے پہنچانی کا سبب پوچھا
اہنوں نے غرض کیا" یا رسول اللہ؟ دشمن ہمارے اس قدر قریب پہنچ گئے ہیں
کہ اگر یہ ظالم اپنے قدموں کی طرف نگاہ ڈالیں تو ہمیں دیکھ لیں گے" آپ نے
نهایت اطمینان اور سکون کے ساتھ فرمایا۔ ابو بکر گھبراوے نہیں۔ اللہ ہمارے
ساتھ ہے! دراصل کفار نے آپ کی گرفتاری کے لئے بھاری انعام مقرر کر رکھا
تھا۔ لمحے میں آکر ایک سے ایک پہاڑ آپ کی تلاش میں دوڑا پھر رہا تھا۔
لیکن اوہ رآپ اطمینان کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے سفر کرتے چلے

چاہیے تھے۔

۶

خطرہ کی کوئی بات نہیں

اسی سلسلہ کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک رات اہل مدینہ گھری نیند کا مزہ لے رہے تھے۔ رات مجھیگ چلی تھی۔ ہر طرف ہجو کا عالم تھا۔ اچانک ایک طرف سے شور ملند ہوا۔ لوگ ہڑ بڑا کہ بیدار ہوئے۔ کچھ نیند کے اثرات اور کچھ رات کا وقت، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آ خر کیا ماجرا ہے۔

ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق بات کر رہا تھا کہ کبھی رہا تھا کہ کفار مکہ نے حملہ کر دیا ہے۔ کسی کا خیال تھا کہ یہ بہودیوں کی شرارت ہے۔ اور بعض انسے چوروں اور ڈاکوؤں کی کارستانی سمجھ رہے تھے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔

آخر چند میہدار صحابہ نے شہر سے باہر نکل کر صورتِ حال کا جائزہ لینے کا مشورہ دیا۔ ابھی کچھ نوجوان شہر سے نکلے ہی تھے کہ انہوں نے دُور سے کسی کو گھوڑے پر سوار آتے دیکھا۔ اندھیرے کی دبہ سے پہچان نہ سکے۔ جو ہبھی سوار قریب آیا تو سب بیہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ رسولِ خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

۱۔ صحیح بخاری۔ بتایپ المہرۃ

پتہ چلا کہ شور کی آواز سن کر رسالتاً پ اکیلے ہی صورتِ حال کا جائزہ لینے کے لئے نکل گئے تھے۔ اور دُور تک چکر لگا کہ آئے ہیں۔ آپ نے سب لوگوں کو تسلی دی کہ خطرے کی کوئی بات نہیں اور واپس چاکر آرام کریں۔

(۶)

تمہیں بھی میرا اللہ مجاہد گا

شہؓ کا داقوہ ہے۔ کہ حضورؐ وادیٰ بند کے کچھ باغی قبائل سے نہیں کے لئے تشریف لے گئے۔ سات سو صحابہ سہراہ تھے۔ اسلامی فوج نے وادی میں جا کر ڈیرے ڈال دیئے۔ ڈھن سنت خوفزدہ ہو گئے۔ سامنے آگر مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ سوچا کہ کسی طرح سے نیچے پاکؓ کو ختم کر دیں۔ اس مقصد کے لئے ایک شخص عوزٹ بن حارث کو مقرر کیا گیا۔ کہ جہاں بھی موقع ملے حضورؐ کو قتل کر دے چنا پچھے یہ مکار شخص موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ اتفاق سے ایک دن حضورؐ باقی سماجیوں سے الگ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ غوریث نے آپؐ کو سوتے ہوئے دیکھا تو دل میں خوش ہوا کہ فار کرنے کا اچھا موقع ہاتھ آگیا۔ چنانچہ دبے پاؤں درخت کی طرف بڑھا۔ چپکے سے تلوار اٹھائی اور حلقہ کرتے کا سوچ ہی رہا تھا کہ بنی اکرمؓ کی آنکھ کھل گئی۔ ایک ڈھن کو یوں تلوار بسوئتے کھڑا دیکھ کر آپ باکل نہیں گھراۓ۔ اطمینان سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کافر

۱۔ صحیح بخاری بكتاب الجہاد

نے آپ کو بیدار دیکھا تو چلایا۔

"محمد! بتاؤ اج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟" آپ نے ہنایت اطمینان اور سکون سے جواب دیا۔

"میرا اللہ"

یہ سنا تھا کہ کافر پر عجیب طرح کا خوف طاری ہو گیا اور وہ ڈر کے اڑے تھر تھر کا نپنے لگا۔ تلوار ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ آپ نے لپک کر تلوار اٹھائی اور اس سے پوچھا،

"آپ بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟" کافر کی تو پہلے ہی نسلی گم تھی۔ اب تلوار جو حضورؐ کے ہاتھ میں دیکھی تو لگھی بندھ گئی۔ ہنایت یہ بسی کے عالم میں کہنے لگا۔ اب مجھے یقیناً کوئی نہیں بچا سکتا، سرکارِ دو جہاں نے یہ سنا تو زمی سے فرمایا "نہیں، تمہیں بھی میرا اللہ بچا سکتا ہے؛ یہ کہا اور تلوار کافر کے سپرد کر دی، اس واقعہ کا اس پر اس قدر اثر ہوا کہ اُسی وقت حضورؐ کے قدموں میں گز گیا اور کھمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔"

عدل و انصاف

کسی بوجھ کو دو برابر حصوں میں اس طرح تقسیم کر دیا جاتے کہ ان میں فرقہ مجر کا بھی فرقہ نہ رہے تو اس کو عربی میں عدل کہتے ہیں، مطلب یہ کہ حق کا ترانہ و بالکل پر ابہ رہے اور کسی طرف حجج کنے نہ پائے۔ یہی عدل ہے اور یہی انصاف۔

عدل خدائی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ننانے سے ناموں میں سے ایک عادل بھی ہے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے۔ **وَاللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ**۔ ترجمہ: اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔

ایک اور آیت میں آتا ہے۔ **وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ رَاخِذًا**۔ ترجمہ: اور اللہ حق بات کرتا ہے۔

دنیا کا سارا نظام عدل و انصاف پر قائم ہے قرآن حکیم کی تعلیمات کو ہم حضور مسیح کو نین کی ذات اقدس میں محبتمن دیکھتے ہیں۔

حدیث پاک ہے۔

ترجمہ: قیامت کے دن جب خدا کے سایہ کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا سات اشخاص کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں لے لے گا۔ اور ان میں ایک شخص

النفاف کرنے والا حاکم را مام، ہو گا۔

حضرت خود بھی ہنایت منصف مزاج تھے۔ دنیا کی کوئی طاقت اپنے کے
فیصلوں پر اثر انداز نہ ہو سکتی تھی۔ آپ کی یہ النفاف پسندی بلہ تمیز
مذہب و ملت پوری نوع انسانی کے لئے تھی۔ ذیل میں اس سلسلہ کے کچھ
وقایات دیئے جا رہے ہیں۔

(۱)

فاطمہ حمزہ کی چوری

بنی محزوم عرب کا ایک بارسونی قبیلہ تھا۔ گرد و پیش کے قبائل نہ صرف
اس سے دیتے بلکہ اس کا الحاظ بھی کرتے تھے۔ اسی قبیلہ کے بااثر بوغوس میں
ایک کانام قیس تھا۔ قیس کی ایک بیٹی تھی فاطمہ، سنت منہ چڑھی اور بے پاک
قسم کی خاتون تھی۔ چھوٹی موتی بات کی پروادہ ہی ہنسی کرتی تھی۔ چنانچہ ایک دختر
چوری کی اور رنگے ہاتھوں پکڑی گئیں۔ مقدمہ رسول خدا کی خدمت میں پیش
ہوا۔ موقعہ کے گواہ موجود تھے، چوری کا مال بھی برآمد ہو گیا اور سب سے پڑھ کر
یہ کہ ملزمبر نے اقرار حرم بھی کر لیا۔ چنانچہ حضرت نے اسلامی قانون کے مطابق
اس کا دایاں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔

حضرور کا یہ فیصلہ بعض صحابہ کو گران گزرا۔ ملنے والہ فاطمہ ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ چنانچہ اُسے بچانے کی ترکیبیں سروچی جانے لگیں۔ اب مشکل یہ آن پڑی کہ سفارش کس سے کرائی جائے ان لوگوں میں سے تو کسی کی مجال نہ تھی کہ اس سلسلہ میں رسول خدا سے کچھ کہتا ہے۔ سوچ بچار کے بعد نظر حضرت اسامہ بن زید پڑی۔ سب کا خال مقاکہ چونکہ حضرور انہیں بہت عزیز رکھتے ہیں لہذا ان کی بات ہنسیں ٹالیں گے۔

چنانچہ حضرت اسامہ بن زید ان لوگوں کے کہنے پر فاطمہ بنت قیس کی سفارش لے کر حضرور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دلائل وہی تھے کہ ملنے والہ عورت ذات ہے۔ ایک با اثر قبیلہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس سنت سزا کا سُن کہ اس کے قبیلہ والے کہیں اسلام ہی سے بگشته نہ ہو جائیں۔ رسول خدا نے اسامہ بن زید کی گذار شات سنیں تو چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ فرمایا:-

”تم سے پہلے کی قومیں اسی لئے تباہ ہوئیں کہ جب کوئی معمولی آدمی جرم کرتا تو اُسے سزا دے دی جاتی تھی۔ مگر جب وہی جرم بڑے درجہ کے لوگ کرتے تو انہیں معاف کر دیا جاتا تھا۔“ پھر فرمایا:- ”خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت قیس کی جگہ فاطمہ بنت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) مجھی جرم کرتی تو میں یعنیا اُسے بھی پہلی سزا دیتا۔“

(۲)

آدمیوں سے بدله لے لو

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اسلامی شکر ایک ہم سے فتح مند لونا۔ بہت سا مال غنیمت ہراہ تھا۔ مجاہدین نے رسول خدا سے درخواست کی کہ آپ یہ سامان ان میں اپنے ہاتھ سے تقسیم فرمادیں۔ حضور نے ان کی یہ درخواست قبول کری۔ اگلے روز سارا سامان مسجد بنوی کے صحن میں جمع کر دیا گیا۔

تقسیم شروع ہوئی۔ حضور بتفسیں نفس تقسیم کی نگرانی کر رہے تھے۔ آپ نے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھوٹی سی چھڑی تھام رکھی تھی اور اس کے اشارے سے لوگوں کو باری باری آنے کا کہہ رہے تھے۔

سارا کام ٹڑے پر سکون طریقے سے ہوا تھا، کہ ایک شخص کہیں سے بھاگتا ہوا آیا اور مارے لائیں کے، سامان تقسیم کرنے والوں پر جھپٹ پڑا۔ حضور کو اس کی یہ حرکت بہت بُری لگی۔ چنانچہ آپ نے اُسے چھڑی سے تیکھے دھکیں دیا۔ چھڑی کی نوک دنا لکھی ہوئی تھی جس سے نوار دکے چہرے پر زخم آگیا۔

حضور نے دیکھا تو پیشان ہوئے اور اُسی وقت فرمایا کہ ”یہ لو چھڑی اور مجھ سے بدله لے لو“

سارے صحابہؓ دم بخود تھے۔ کہ کہیں وہ شخص کوئی غلط حرکت نہ کر سکتے۔ لیکن اس دوران اُسے بھی اپنی فلسفی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے عرض کیا۔ تیار رسول اللہؐ غلطی میری تھی۔ میں نے پاری کا انتظار کرنے کی بجائے بے صبری کا منظاہرہ کیا۔ مجھے آپ کی سرزنش کا کوئی ملال نہیں اور میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔“

سمان اللہؑ یہ سرکارِ دوچینؒ کا کردار ہے۔ آپ مسلمانوں کے رو حافی سرپریاہ ہی نہیں بلکہ دنیوی حاکم بھی تھے لیکن اپنی معنوی سی زیادتی پر تڑپ اٹھتے اور اپنے آپ کو قصاص کے لئے پیش کر دیا، کیا دنیا کا کوئی حکمران ایسی مشال پیش کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔

(۳)

یہ پھوری نہیں

عبد بن شرجیل مدینہ کے رہنے والے تھے۔ غریب آدمی تھے۔ محنت مزدوری کرتے، لیکن گذارہ نہیں ہوتا تھا۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ پیٹ بھر کر روٹی بھی نصیب نہ ہوتی تھی۔ ایک دن گھر میں کچھ نہ تھا۔ پیٹ میں چھے دوڑ رہے تھے۔ بھی کے سامنے سوال کرنے کو جی ہنس چاہ رہا تھا۔ چنانچہ سخت بھوک کی حالت میں ہر سے باہر نکل گئے چلے گئے۔

انگوروں کے ایک باغ میں جا پہنچے۔ پکے ہوئے خوشے لٹکتے دیکھ کر منہ میں پانی بھرا آیا۔ مجوہ ک اور چکر صحتی۔ بہت ضبط کیا لیکن رہا نہ گیا۔ بالآخر باغ میں داخل ہو گئے۔ انگور توڑ کر پٹی بھرا اور کچھ کپڑے میں رکھ لئے۔

اتفاق کی بات کہ باغ کا مالک دُور بیٹھا سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ مجاہد آیا اور عباد کر کر پڑا، خوب جی بھر کے پٹائی کی اور کپڑا اور انگور چین لئے۔ اس سے بھی تسلی نہ ہوئی تو بامدھ کر حضورؐ کے پاس لے آیا اور چوری کی شکایت کی۔

حضورؐ نے سارا ذائقہ سننا تو عباد کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ مالک کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس نے تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے باغ سے پھل ضرور کھائے ہیں لیکن یہ چور نہیں ہے اور اسے سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہی نہیں بلکہ مالک کوڑا ملتے ہوئے فرمایا یہ بے سمجھ تھا مجونے اسے سمجھایا نہیں، یہ بھوکا تھا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ پھر حضورؐ نے ذ صرف عباد کا کپڑا والپ دلوایا بلکہ باغ کے مالک کو حکم دیا کہ انہیں کچھ غلہ بھی دے!

(۲)

یہودی حق پر ہے

مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی آپ کی انساف پسندی کے زبردست قابل تھے۔ آپس میں کوئی جگہ رکھتا ہوتا تو حضورؐ کی خدمت میں پیش کرتے۔ ایک دفعہ ایک یہودی اور ایک نام کے مسلمان بشر میں جگہ رکھتا ہو گیا۔ یہودی کی خواہ سمجھی کہ فیصلہ رسولِ خدا سے کرا یا جائے، جبکہ لبشر یہودیوں کے سردار کعب کے پاس جانا چاہتا تھا۔ وہ یہ بھی کہ یہودی رشتہ لے کر غلط سلط فیصلہ کر دیتے تھے اور بشر ہر قسمیت پر فیصلہ اپنے حق میں کر دانا چاہتا تھا۔ لیکن یہودی نہ مانا۔ عرض دلوں حضورؐ کی خدمت میں پیش ہوئے، ساری کہانی کہہ سنائی۔ یہودی جتنی پڑھتا۔ چنانچہ حضورؐ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ باہر نکلے تو بشر بول کہ فیصلہ درست نہیں ہوا۔ چلو حضرت عمرؓ کے پاس چلتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ حضرت عمرؓ چونکہ جوشیلے مسلمان ہیں لہذا اس کی حمایت کریں گے۔ یہودی مان گیا۔ دلوں حضرت عمرؓ کے پاس پہنچے ساتھ ماجرا بیان کیا اور ساتھ ہی یہودی نے بتا دیا کہ رسولِ خدا اس کے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں، مگر یہ سخن راضی نہیں ہوا اور اب آپ کے پاس آیا ہے۔ حضرت عمرؓ نے بشر سے پوچھا تو اس نے بھی یہودی کے بیان کی تصدیق کی۔ اس پر حضرت عمرؓ بدلے

مظہر میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اندر گئے۔ اور تکوار لاکر منافع بشری کی
گردن اڑا دی۔ اور کہا جو شخص خود کو مسلمان کہتا ہے اور حضور کا فیصلہ تسلیم
ہنسی کرتا ہے اس کا فیصلہ یوں کرتا ہوں۔ منافقون نے اپنے ساختی کے قتل پر
بہت واولیا کیا۔ لیکن عمرؓ کے فیصلے کی تائید میں وحی آگئی اور اُسی دن سے
آپ کا نقب فاروق مشہور ہو گیا۔

(5)

سب سے ایک ساسلوک

حضرت عباسؓ حضورؐ کے چھا تھے۔ غزوہ پدر تک اسلام قبل ہنسی کیا
تھا اور جنگ میں کفارِ مکہ کی طرف سے شرکت کی، کفار کو شکست ہوئی۔ بہت
سے مارے گئے اور کئی ایک قیدی ہرئے۔ قیدی بننے والوں میں حضرت عباسؓ
بھی شامل تھے۔ سب کے ہمراہ انہیں بھی ہاتھ پاؤں باندھ کر مدینہ لا یا گیا
او مسجد بنوی کے پاس ایک احاطے میں ڈال دیئے گئے۔

حضرت عباسؓ ناز و نعمت میں پلے ہوئے قریشی سردار تھے۔ قید و بندگی تکلیفوں
سے نا آشنا۔ آپ جو تجربہ ہوا تو سخت بے چین ہرئے اور کراہنے لگے۔
حضورؐ نے ان کو تکلیف میں دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ آخر قریبی رشتہ دار
تھے، خون کا تعلق تھا۔ مگر اپنی پریشانی کو کسی پر ظاہر نہیں کیا۔

لیکن صحاپہ کرام کا بھی آخر رات دن کا ساتھ تھا جو حضور کو بے محل دیکھا تو
معاملہ کی تہہ کو پہنچ گئے۔ چاہا کہ حضرت عباسؓ کی رسیاں ڈھیلی کر دیں تاکہ
ان کی تخلیف میں کمی ہو جو حضورؐ کو پتہ چلا تو منع فرمادیا اور کہا عباسؓ نہ
میر سے عزیز ہے، لیکن صرف اہنی کو رعایت دینا قریں انصاف نہیں یہ سب
کے ساتھ ایک ساسوک کرو۔ یا تو سمجھی کی رسیاں ڈھیلی کر دیا سمجھی کرائیے ہی
زندہ دو۔

بسم اللہ الرحمن الرحيم
کے ناجائز استعمال کا تصور تک نہ کیا اور عدل و انصاف کے تقدیموں
کو نجایا۔

۶

جلد بازی کا نقصان

ایک شخص نے دوسرے کے پاؤں پر کسی جانور کا سینگ اس زور سے
مارا کہ اس کا پاؤں زخمی ہو گیا۔ زخمی سخت طبیش کی حالت میں سیدھا حضورؐ کے
پاس گیا اور ملزم سے بدلہ لینے پر اصرار کرنے لگا۔ جناب رسالتاً نے
جلد بازی سے منع فرماتے ہوئے زخم ٹھیک ہونے تک انتظار کرنے کے
لئے کہا۔ مگر وہ شخص تو انتقام کئے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ پچھا پچھہ حضورؐ نے

ا جائز دے دی کہ وہ بدلتے میں ایسا ہی زخم ملزم کو لگائے۔

اتفاق کی بات کہ چند دنوں بعد ملزم کا زخم تو مٹھیک ہو گیا اور وہ بھلا چکا ہو گیا، لیکن مدعی نکلا ہو گیا۔ چنانچہ دوبارہ فرمایا تھے کہ دربار رسالت میں پیش ہوا کہ وہ تو اپا ہیج ہو گیا، جبکہ دشمن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔

حضرت نے فرمایا بھائی جب تمہیں انتظار کرنے کو کہا گیا تھا تو اس میں صحت یہی تھی کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لئے صرف زخم ہی نہیں بلکہ اس کے اثرات کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری تھا۔ مگر تم نے بے صبری کی، اب اس کا کوئی ازالہ نہیں۔



غلطی ہماری اپنی تھی

عزدہ بنوک کا ذکر ہے کہ اسلامی شکر میدانِ جنگ میں خمیرہ زن تھا، سپاہی اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک دشمن ایک معمولی سی بات پر آپس میں ابھر گئے۔ ہاتھا پائی تک نوبت پہنچی تو ایک نے درہرے کے بازو میں اس نشدت سے داشت گاڑ دیئے کہ وہ ببلال اٹھا۔ چھڑانے کا بہت کوشش کی، لیکن وہ آمادہ ہی نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ تنگ آکر اس نے بازو اس

نہ رست بُلے کہ میخت لکھ دیتے سے بُجت پیگو شریعت کا بیٹھے
مکنت نہیں کہ اپنے دل تھے اُخْریِیں۔
بُجت نہیں تھے میخت لکھ دیتے سے بُجت پیگو شریعت کا بیٹھے
لے خیر لے تو خدا صاحب کو اُخْریں لکھے کہ میخت لکھ دیتے سے بُجت
بُجت فرمایا کہ میخت لکھ دیتے سے بُجت پیگو شریعت کا بیٹھے
لے خیر لے تو خدا صاحب کو اُخْریں لکھے کہ میخت لکھ دیتے سے بُجت
لے خیر لے تو خدا صاحب کو اُخْریں لکھے کہ میخت لکھ دیتے سے بُجت

الیفائے عہد

ایفائے عہد کا مطلب ہے وعدہ نبھانا یا وعدے کو پورا کرنا۔ یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے اور جس شخص میں یہ خوبی موجود ہو، معاشرہ اسے سراً ملکھوں پر بُجھاتا ہے۔ لیکن اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرنے کے لئے کبھی کبھی قربانی بھی دینا پڑتا ہے۔ بنطاحر گھٹائے کا سبوا ہوتا ہے، مگر اُسے قبول کرنا پڑتا ہے۔

ہمارے مذہب میں ایفائے عہد کی بہت تاکید پائی جاتی ہے۔

قرآن مجید میں آتا ہے: **إِنَّ الْعَهْدَ حَانَ مَسْتَوْمَ لَا رَبْنَى إِسْرَائِيلَ** ۲۰ ترجمہ:۔ بیشک وعدہ کی باز پُرپُس ہوگی۔

حدیث مبارک میں آتا ہے:

ترجمہ: منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بولے حبرٹ بولے، جب وعدہ کرے ایفائے کرنے اور جب امانت سونپی جلتے تو خیانت کرے!

ایک اور حدیث مبارک ہے:

ترجمہ: جس میں عہد نہیں اس میں دین نہیں۔

حضرت مسیح کوئین کی شخصیت ہمارے لئے ایک منونہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کی ذات ہا برکات میں وہ تمام اعلیٰ صفات موجود ہیں جن کی وجہ سے آپ پوری انسانیت میں اعلیٰ و افضل قرار پائے۔ ان صفات میں الیقائے عہدِ بھی شامل ہے۔ آپ نے جس سے جو بھی وعدہ کیا، اُسے سنجا یا۔ ذیل میں اس سلسلہ کے کچھ دلائلات بیان کئے گئے ہیں۔

①

ابو جندل کا واقعہ

ہجرت کے بعد حضور مدینہ تشریف لے آئے تھے۔ لیکن کہہ میں خانہ خدا کی زیارت کے لئے بے تاب رہتے تھے۔ ابتدائی سال تو پہلے حد مصروفیت کے تھے۔ جب ذرا فراغت ہوتی اور مسلمانوں کی پوزیشن بھی کسی حد تک معمبوط ہو گئی تو شہر میں آپ پھودہ سو صحابہؓ کے ساتھ زیارت بیت اللہ کے لئے روانہ ہوتے، کہ کے نزدیک ہیچ کرڈیمے ڈالے اور قریشی سرواروں کے پاس قاصد بھیجا تاکہ شہر میں داخلے کی اجازت لی جاسکے۔ فریقین میں مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پایا، جس سے تاریخ میں صلحِ حدیبیہ کے نام سے میاد کیا جاتا ہے، اس معاہدہ کی اکثر شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف جاتی تھیں، لیکن اس کے حیث اگریز نتائج برآمد ہوئے۔ قرآن کریم میں اسے فتح میں

لکھا گیا ہے -

دیگر شرائط کے علاوہ معاہدہ کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ ۔۔۔
 "اگر مکہ کا کوئی باشندہ مدینہ جا کر پناہ طلب کرے تو رسولِ خدا اسے مکہ والوں
 کو روپا دیں گے۔ لیکن اگر کوئی مدینہ کا رہنے والا مکہ آگیا تو اسے ولیں نہیں کیا جائیگا۔
 معاہدہ میں اس دفعہ کو شامل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مکہ میں بہت سے مسلمان
 موجود تھے جو مدینہ جانا چاہتے تھے لیکن ان کے والدین، رشتہ دار اور سرپستوں
 نے انہیں زبردستی روک رکھا تھا۔

ابھی معاہدہ پر دستخط ہوتے ہی تھے کہ مکہ میں رہنے والا ایک نوجوان
 ابو جندل ابن سہیل بچا بھاٹا رسولِ حُدَا کے کیپ میں اس حالت میں پہنچا کہ پاؤں
 میں بیڑیاں پڑھی ہوتی تھیں، جسم نرم گھون سے چور اور فاقول سے نیم جان تھا۔
 آتے ہی حضور کے قدموں میں گز گزیا اور گزر گرا کر پناہ طلب کی۔ ابو جندل کی
 حالت دیکھو کر آپ کا دل بھرا آیا۔ دیگر صحابہؓ کو بھی طیش آیا کہ کفار نے ان کے
 ایک مسلمان بھائی کی کیا حالت بنارکھی بھے۔ بعض نے مخاوش بھی کر دیا کہ اس حالت
 میں ہمیں ابو جندل کو کفار کے پاس جھپٹو کر نہیں جانا چاہئے۔ لیکن معاہدہ کی
 مستعلمه شرط جذبات پر غالب آگئی۔ ابو جندل کے والد کے مطالبہ پر اس
 منظوم مسلمان کو مکہ والیں بیچ دیا گیا۔ البتہ اس کے والد سے عہد لیا کہ اسلام
 قبول کرنے کی پاداش میں وہ اپنے بیٹے پر تشدد نہیں کرے گا۔ حضور نے

ابو جندل کو دُعا دی اور فرمایا کہ اللہ اس کے لئے یقیناً بہتر ہوت پیدا کرے گا۔ عزیز دوستو! دیکھا آپ نے۔ حضور چاہتے تو ابو جندل کو ہمراہ بھی لے جاتے۔ لیکن انہوں نے معاہدہ کا احترام کرتے ہوتے ایسا نہیں کیا۔

(۲)

حضرت حذیفہ اور حسیل کا واقعہ

کفارِ مکہ کے مظالم کی انہا ہو گئی تو مسلمانوں نے اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ کفار کے خوف کی وجہ سے حکم کھلا شہرِ حجود نا مشکل تھا۔ چنانچہ ایک، ایک، دو دو کمر کے چوری چھپے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے تھے۔ کفار کو پتہ چلا کہ مسلمان یوں جا رہے ہیں تو بگرانی شروع کر دی۔ لیکن وہ پھر بھی نجی نکلتے اور مدینہ پہنچ جاتے۔

حضرت حذیفہ اور ان کے والد حضرت حسیل ابھی تک مکہ میں تھے، حضور نکے پاس مدینہ جانے کے لئے بے چین تھے۔ لیکن قریش کی آنکھوں میں خاکِ جھونکنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ ایک شب بہت کر کے نکلے۔ ابھی متوڑتی ہی دور گئے تھے کہ دشمنوں نے آگیرا۔ والپیں لے جانے ہی والے تھے کہ حضرت حسیل کو ایک ترکیب سوچھی بولنے ہیں مگر میں رکھ کر لیا کرو گے۔ جاؤ ہماری زمینیں اور جائیدادیں سنبھال لو اور ہمیں رسول خدا کے پاس مدینے

جانے دو۔ کفار لا بحی میں آگئے۔ حضرت حسیل اور حذیفہ کو جانے کی اجازت دے دی گئی اس شرط پر کہ اگر کبھی کفارِ مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوئی تو باپ ٹپیا اس میں حصہ نہیں لیں گے، دونوں نے وعدہ کیا اور جان خلاصی کراکے مدینہ چلے آئے۔

ابھی آئے عقوڑا بھی عرصہ گز راتھا کہ بدہ کا معکرہ پیش آگیا۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور پورے پیکے بھی شرکیں جنگ ہو رہے تھے۔

حضرت حسیل اور ان کے بیٹے حذیفہ بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

جنگ میں شرکت کے لئے آمادگی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی کفار کے ساتھ کئے گئے وعدے کا بھی سرسری ساز کر دیا۔

حضور نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ عہد کیا ہے تو ہم اسے سنبھالیں گے۔ گواستہ ہمیں آدمیوں کی سخت ضرورت ہے مگر ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے اور دشمنوں کے مقابلے میں اللہ سے مدد طلب کریں گے۔

دوستو! آپ نے دیکھا کہ سور کائنات نے دشمنوں سے کئے گئے وعدہ کو بھی کس قدر اہمیت دی اور انہائی مشکل وقت میں بھی اس پر کار بند رہے۔

(۳)

تین دن کا انتظار

بیوت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص عبداللہ نامی نے اپنے سے کوئی چیز خریدی قیمت میں کچھ کمی رہ گئی تو عبداللہ نے کہا اپنے یہیں بھریں میں باقی پہیے لے کر ابھی آیا۔ جاکر وہ بھول گیا اور کسی اور کام میں مصروف ہو گیا۔ تین دن بعد خیال آیا کہ میں تو محمدؐ کو انتظار کرنے کا کہہ آیا تھا اور اسی رقم بھی دینا ہے۔ چنانچہ اس جگہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ رسالتاً موجود ہیں اور اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اُسے دیکھ کر فرمایا۔ عبداللہ تو نے مجھے بہت تکلیف دی۔ میں تین دن سے لمبارا ہیں انتظار کر رہا ہوں، عبداللہ نے مذرت کی اور تباہیا رقم ادا کر دی، یعنیاً یہ ایفلے عہد کی انتہا ہے۔

حُلْمٌ وَعَفْوٌ أَوْ صَبْرٌ وَتَحْمِلٌ

حُلْمٌ وَعَفْوٌ أَوْ صَبْرٌ وَتَحْمِلٌ کا مطلب ہے۔ مزاج کا دھیان، برداشت کا مادہ، اور قدرت کے باوجود انتقام نہ لینا۔ یہ صفات جس بھی شخص میں ہوں گی۔ معاشرہ میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتے گا۔ لیکن اپنے اندر ان صفات کا پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ تیزی اور تندی تو آجھل شخص کے مزاج کا خاصاً بن گیا ہے۔ برداشت نام کی چیزوں میں کم ہی پائی جاتی ہے۔ مزاج کے خلاف ذرا سی ہات ہو جائے تو ورنے مرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مذہب ایسی باتوں کے سنت خلاف ہے۔ اسلام تو ہمارے اندر حُلْمٌ وَعَفْوٌ وَتَحْمِلٌ اور عفو و درگذر جیسی صفات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ دراصل یہ خدائی صفات ہیں۔

قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے:- **وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَلِيمٌ** دنساء - ۱۲۔

ترجمہ:- اور اللہ جانے والا برداشت ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:- **إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ** راجی عمران - ۱۱۹۔

ترجمہ:- بیشک اللہ بخشنے والا اور برداشت ہے۔

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے : وَهُوَ اللَّهُ الْمُبِينُ يَقْتَلُ التَّوْبَةَ عِنْ عِبَادَةِ وَيَعْفُوا
عَنِ الْبَشِّرَاتِ (شوری - ٣)

ترجمہ : اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توہ بول کرتا ہے اور برائیوں کو معاف کرتا ہے ۔

مومن کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا : وَإِذَا مَا عَظَمْتُمُوا هُنْمُ
يَغْفِرُونَ (شوری ٣)

ترجمہ ۱۔ اور جب غصہ آئے تو وہ معاف کر دیتے ہیں ۔

قرآن حکیم کی ان آیات کے علاوہ مختلف احادیث میں بھی حلم و عفو اور صبر و تحمل کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے ۔

حدیث مبارک ہے ۱۔ ترجمہ : اللہ تعالیٰ عفو و درگذر کرنے والے کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں ۲۔

ایک اور حدیث ہے ۳۔ ترجمہ : ہماری دو خصلتوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں ایک حلم اور دوسرے دھماپن (یعنی جلد بازی نہ کرنا) ۴۔

ایک اور موقع پر فرمایا ۵۔ ترجمہ : پہلوان وہ نہیں ہو گوئی کوئی کوششی میں بچا رکھے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے ۶۔

حضرت شریف کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلم و عفو اور صبر و تحمل میں بہتمان

۱۔ ترمذی ۲۔ ترمذی ۳۔ صحیح بخاری ۴۔ کتاب الاذاب

تھے۔ مخالفین کی پذیربائی اور پیروں کی الزامات پر بھی آپ کبھی آپ سے باہر نہیں ہوتے۔ آپ نے کبھی گالی کا جواب گالی سے نہ دیا۔ وہمتوں نے کئی بار تو ہیں آمیز روایہ اختیار کیا لیکن آپ نے ہمیشہ بدائی کے بدے میں بدلائی کی۔ تہذیب و شرافت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ذاتی حق تلفی کا کبھی استقامہ نہ دیا۔ اس باب میں آپ کے حلم و عفو اور صبر و تحمل کے سلسلے میں کچھ واقعات بیان کئے جا رہے ہیں۔

①

یہودیوں کی شرارت



یہودی رسولِ خُدُّا اور مسلمانوں کے سنت دشمن تھے۔ مذہب اسلام سے انہیں چڑھتی۔ اسلام اور حضورؐ کی توہین کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو **اَسْلَامُ عَلَيْكُمْ** (تم پر اسلامتی ہو،) کی بجائے **السَّاَمُ عَلَيْكُمْ** (تم پر ملاکت ہو) کہا کرتے تھے۔ صحابہ نے حضورؐ سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ جھگڑا مرتب کر دو۔ صرف جواب میں **وَعَلَيْكُمْ** (تم پر بھی،) کہہ دیا کر دو۔ ایک مرتبہ کچھ یہودی حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حسبِ عادت حضورؐ سے بھی **اَسَّاَمُ عَلَيْكُمْ** کہا۔ یہ صن کر **اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ** حضرت عائشہ کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے غصے میں جواب دیا **السَّاَمُ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّنَّكُمْ اَلَّا**

وَغَيْضَتْ عَلَيْكُمْ لِعْنَتِنَا تُمْ پُر ہلاکت ہو اور اللہ کی لعنت اور غصہ بہو۔
یہ سُن کر رسولِ خدا نے حضرت عالیٰ شریف سے فرمایا کہ انہیں زمی سے بات کرنا
چاہئے تھی۔ لعنتِ زبانی سے بچنا چاہئے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں
کو پسند نہیں فرماتے۔

۲

یہودیوں کی پد عہدی

بھرت کے وقت مدینہ میں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ چنانچہ
انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ امن کے ساتھ رہیں گے
اور ضرورت کے وقت ان کی مدد بھی کریں گے جیسا کہ یہودیوں کی چال
تحتی اصل میں وہ مسلمانوں کے مقابلہ میں کمزور تھے اور انہیں نقصان
پہنچانے کے لئے موقع کی تلاش میں تھے۔ بدر میں وہ مسلمانوں کی
کامیابی سے بہت سارے پریشان ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے قریش مکہ کے
ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ فیصلہ یہ ہوا
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ سے قتل کر دیا جائے میں فوپی یہ بنا
کہ قتل کے ایک مقدمے میں حضنورؑ کو منافق کے طوز پر بلا یا جائے اور فوجوں

پا کر کام تمام کر دیا جائے۔ حضور تشریف لائے تو یہودیوں نے بڑی آڈ مہجگت کی دوپہر کا وقت تھا۔ سایہ دار درخت عرب میں دیسے ہی کم ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک دیوار کے ساتھ میں نشت کا انتظام کیا گیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ ایک یہودی سردار عمر دیوار پر سے ایک بھاری پتھر آپ پر گرا دے گا۔ اور اسے اتفاقی حادثہ قرار دے دیا جائے گا۔

اللہ کی شان دیکھئے کہ ابھی عمر دیوار پر چڑھا ہی تھا۔ کہ رسول اللہ کو وحی کے ذریعے یہودیوں کے ارادہ کی اطلاع ہو گئی۔ آپ فوراً اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو سخت خوفزدہ ہوتے۔ انہیں یقین تھا کہ حضور اس سازش کو معاف نہیں کرے گے۔ مارے ڈر کے قلعہ میں بند ہو کر بیٹھ گئے اور حضور سے درخواست کی کہ انہیں اپنے مال و اسیاب کے ساتھ شہر سے باہر جانے کی اجازت دے دی جائے۔ گواہیں شرف قبولیت کی ذرہ بھرا مید نہیں تھی۔ لیکن حضور رسالتماں کی شان کریمی ملا خبلہ ہو کہ جان کے دشمنوں کی یہ درخواست قبول فرمائی اور وہ ساز و سامان سمیت خبر پھلے گئے۔ غور کیجئے۔ رسول اللہ چاہتے تو یہودیوں کو ان کی اس حرکت کی سخت سزا دے سکتے تھے لیکن آپ نے درگذر سے کام لیا۔

۳

قاتلہ کی جان بخشی

خبر کی دادی مدینہ منورہ سے تقریباً ایک سو میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ کچھ یہودی وہاں پہلے سے آباد تھے اور کچھ عمر و کی مشرارت کے بعد وہاں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ یوں آہستہ آہستہ یہ بستی یہودیوں کا گڑھ بن گئی اور انہوں نے اپنی حفاظت کے لئے کچھ مضبوط قلعے تعمیر کر لئے جس سے عادت یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے اور اسلام کے دشمنوں کی حمایت پر کربتہ رہتے تھے۔ نبی کریمؐ نے بہت برداشت سے کام لیا۔ آخوندگ آنکھ محرم شہ میں خبر پر فوجکشی کی اور یہودیوں کو شکست دی۔

یہودی بہت ہوشیار قوم ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ طاقت کے ذریعے سے مسلمانوں سے ہٹانا مشکل ہے، تو بظاہر دوستی کا ہاتھ پڑھایا اور خوشامد شروع کر دی۔ اس سلسلہ میں ان کا سردار مرحوب پیش پیش تھا۔ فتح کے بعد حضور اسلامی شکر سمیت چند دنوں کے لئے خبر میں رکھ کر رہتے۔ ایک روز مرحوب چند ساختیوں کے ہمراہ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہری نیازمندی کا مظاہرہ کیا اور جاتے ہوئے کھانے کی دعوت دے گیا۔ دعوت کے معاملے میں حضورؐ کسی کی دشکنی نہیں کرتے تھے۔ پچھلے یہودی سردار کو بھی ہاں کر دی۔ مرحوب کی ایک مجادج تھی۔ زینب بنتِ

حارت مسلمانوں سے سخت متنفس اور حضورؐ کی تو جانی دشمن تھی۔ اُسے دعوت کا علم ہوا تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی۔ کہ پیغمبر اسلام کو ختم کرنے کا سہری موقع ہاتھ لگا ہے۔ چنانچہ اس نے بڑے جوش و خروش سے کھانا پکوایا اور اس میں زہر ملا دیا۔

حضورؐ اور اُن کے ساتھی وقت پر تشریف لائے اور دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ رسالتاَبؓ نے پہلا لقہمہ ہی لیا تھا کہ زہر کا علم ہو گیا، چنانچہ ہاتھ وہیں روک پیا۔ جن صحابہ نے چند ایک لقے کھائے تھے۔ ان کی حالت تو غیر ہو گئی تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ یہ زینب کی کارستانی ہے۔ اُس سے پوچھا ترپوی کہ میں نے زہر اس لئے ملایا تھا کہ اگر آپؐ اللہ کے سے بنی ہیں تو خود ہی واقف ہو جائیں گے دردہ ہمیں آپؐ سے سنجات مل جائے گی۔ اب میری تسلی ہو گئی ہے اور میں ایمان لاتی ہوں دہر کے اثر سے کچھ صحابہ کا تو انتقال بھی ہو گیا۔ حضورؐ پر بھی اس ایک لقہ میں شامل زہر کا اثر ساری عمر رہا۔ لیکن شانِ کریمی ملاحظہ ہو کہ ملزمه سے انتقام لینے کی بجائے اُسے معاف کر دیا۔

۲

سفر طائف

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثل صبر و تحمل کا ایک اور نظارہ

۱۔ صیبح بخاری۔ ہاب۔ فتح ثیر و ذکر وفات بجزی

حقِ خدا نے طائف کے قبیلے میں کیا۔ یہ سرسریز دشاداب بستی مکر نے کوئی سوچ کرو میرے کے فاصلے پر داقعہ ہے۔ قریش مکر نے مظالم کی انتہا کر دی تو رسالت مکر نے سوچا کہ کچھ عرضے کے لئے کسی اور جگہ چلے جائیں بچانے کے نظر انہا ب طائف پر پڑی۔ خیال یہ تھا کہ اگر طائف کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو قریش کے ہاتھوں مسلسل ظلم و ستم کا شکار ہونے والے مسلمانوں کو بھی وہیں بلا لیں گے۔

طائف میں اُن دونوں تین مجھائیوں (عبد بالیل، مسعود اور حبیب عمر) کا اثر درسوخ تھا اور وہ ایک طرح سے بستی کے سردار تھے۔ حضور پیغمبر میں پہنچنے تو سیدھے ان کے ڈیورے پر گئے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ آپ کا خیال تھا کہ اگر ان کا رد یہ حوصلہ افزا ہوا تو باقی لوگ بھی یقیناً آپ کی بات پر کان دھریں گے۔ لیکن یہ سرداز بے حد اچھا اور جاہل نکلے۔ دعوتِ حق کی بات سن کر ایک بھائی بولا۔

”اگر اللہ نے آپ کو رسول بنایا کہیجا ہے تو میں خلاف کعبہ کے مذکورے کر دیں گا۔“ دوسرا بولا:-

”کیا اللہ کو تمہارے سوا رسول بنانے کے لئے کوئی دوسرا آدمی نہیں ملا تھا۔“
تمیرا کہتے لگا:-

”میں تمہارے ساتھ کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ کیونکہ دعوے کے مطابق

اگر تم واقعی نبی ہو تو بے حد خطرناک شخص ہو اور تمہارے ساتھ بات چیت میں خطرہ ہے، اور اگر تم جھوٹ کہہ رہے تو تمہارے ساتھ گفتگو کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔"

طائف کے سرداروں کے ردیتے سے حضور کو بے حد مایوسی ہوتی۔ دینِ اسلام کی قبولیت تو کجا دہ تو آپ کی بات ہی سننے کے لئے تیار نہ تھے۔ چنانچہ واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی مڑے ہی تھے کہ ان کمینوں نے لبستی کے اڑکوں بالوں کو آپ کے تیجھے لگا دیا۔ وہ گالیاں دیتے، آوازے کتے اور ہنسی مذاق اڑاتے ہوئے آپ کے تیجھے تیجھے چلنے لگے۔

یہی نہیں بلکہ کچھ ٹفتگوں نے آپ پر سپھراو۔ بھی شروع کر دیا۔ جسم ترجمی ہونے سے آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ لیکن ان ظالموں کو ترس نہ آیا۔ زخموں سے چور ہو کر آپ ایک جگہ بیٹھ گئے تو انہوں نے باندوانے پر ط کر اٹھا دیا اور سپھرو ہی ہاؤ، ٹوکرنے لگے۔ عرض آپ اسی حالت میں شہر سے باہر نکل آئے۔ غندے دالپس ہو گئے تو آپ ایک باغ کی دیوار کے ساتھ طیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے حضور فرمادی اور صبر و استقلال کی توفیق چاہی۔

ذراعیت بھال ہونے پر مگر کی جانب روانہ ہوئے تو آسمان پر بادل چھا گئے۔ نظر اٹھا کر دیکھا، حضرت جبرائیل سامنے تھے۔ عرض کی یار رسول اللہ

ذات حق نے آپ کی دعا سن لی ہے۔ اور پھاڑوں کا انتظام چلانے والے فرشتے کو میرے ہمراہ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ اس پر دوسرے فرشتے نے عرض کی۔ یا رسول اللہ۔ آپ حکم دیں تو میں دونوں طرف کے پھاڑوں کو طائف کی بستی پر الٹ دوں۔

آپ نے فرمایا "ہرگز نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کریں گے جو ایک خدا کی بندگی کریں گے اور اسلام کا بول بالا کریں گے۔

عزیز دوستو! پیارے رسول کے صبر و تحمل اور عفو و درگذر پر عنصر کریں۔ وشمنوں نے ہر طرح کی اذیت پہنچائی، مذاق اُڑایا، گالیاں دیں، پتھر برسائے۔ لہو لہان کر کے شہر سے باہر نکال دیا۔ لیکن رحمۃ للعالیین نے انہیں بہ دعا نہیں دی۔ جواب میں جڑا نہیں کہا۔ اختیار ہونے کے باوجود درگذر سے کام لیا۔ فرشتہ طائف کی بستی کو ہنس ہنس کرنے کے لئے آپ کے احکامات کا منظر ہے۔ لیکن آپ کی شانِ حیمی ملا حظہ ہو کہ ظالموں کو نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ان کی آئندہ نسلیں نیک اور توجید پرست ہوں گی۔ کیا دنیا کا کوئی اور شخص اس قدر صبر و تحمل اور عفو و درگذر کا مظاہر کرتا ہے؟ یقیناً نہیں!

(۵)

بُدُّ دُعا کی بجا تے دُعا

بُزودہ احد میں مسلمانوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک وقت تو ایسا آیا کہ ان کے قدم اکھرنے لگے۔ دشمن کا غلبہ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ حضور حبیب دستور اسلامی شکر کے قلب میں موجود تھے۔ دباؤ طڑھا۔ جان شار ساختی ٹڑھ چڑھ کر آپ کا دفاع کر رہے تھے۔ حضور بھی ٹپری دیری سے اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک دشمن عتبہ بن ابی وقاص نے پتھرتاک کر مارا تو رسالتاب کا سامنے کا ایک دانت شہید ہو گیا۔ ابھی آپ سنبھل ہی پائے تھے کہ ایک اور مخالف فوجی ہمایت تیزی سے آگے ٹپھا اور سرمبارک پر تلوار کا بھرپور دار کر دیا۔ حضور نے حفاظت کے لئے خود پہن رکھی تھی چنانچہ اس کی کڑیاں پیشانی میں دھنس گئیں اور چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ صراور منہ سے خون کے نوارے اُبل پڑے۔ صحابہ نے دیکھا تو بہت پریشان ہوتے۔ عرض کی یا رسول اللہ کاش آپ ان لوگوں کے حق میں بد دعا فرماتے تاکہ یہ تباہ وہرہ باد ہو جاتے۔

جواب میں حضور نے فرمایا،

"میں لعنت اور بد دعا کے لئے ہمیں آیا ہوں بلکہ سیدھی راہ کی طرف بلانے

۱۔ صحیح بخاری، مبعث النبی۔

کے لئے مبorth ہوا ہوں۔ اور اللہ نے مجھے سراپا رحمت بنائی کر جیسا ہے۔ پھر آپ نے دعا فرمائی۔

”بِاللّٰهِ مَنْ يُرِي قومٍ كُو بُخْشَ دَعَے۔ اَنْهُنْ سَيِّدُنَا رَاهَ دَكَّا۔ كَيْوَنَكَ وَهُنْ جَاتِنَّ“
سبحان اللہ۔ جان کے دشمن کے لئے اس قسم کی خیر خواہی تاریخ میں دھونڈنے سے نہیں ملنے گی۔

۶

حضرت حمزہ کا قاتل

حضرت حمزہ[ؑ] حضور کے چھپاتھے۔ نہایت مشق اور سہارہ پہاڑ اس قدر کہ دشمن ان کے نام سے کاپتے تھے۔ جنگ بدر میں آپ کی تلوار کی کاٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ کتنی کافر دن کو جہنم رسید کیا۔ جن میں مکہ کا مشہور سردار طعیمہ بن عدی بھی شامل تھا۔ طعیمہ کے گھروالوں کو اس کے قتل کا بے حد صدمہ ہوا۔ اور وہ حضرت حمزہ[ؑ] سے انتقام لینے کی ترکیبیں سوچنے لگے۔

اتفاق سے اگلے ہی سال احمد کا معزہ پیش آیا تو طعیمہ کے بھتیجے جبریہ بن منم نے اپنے غلام وحشی سے دعده کیا کہ اگر وہ حضرت حمزہ[ؑ] کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ جنگ شروع ہوئی۔ وحشی تاک میں ملتا۔ جو نبی موقعہ ملا۔ پیچھے سے نیزہ مارا جس سے آپ شہید ہو گئے۔ وحشی نے

حسب وعدہ آزادی پانی اور مکہ میں رہنے لگا۔ مکہ فتح ہوا تو بھاگ کر طائف چلا گیا۔ جب طائف کے کچھ لوگ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وحشی بھی ان کے ساتھ چلا آیا۔ اسلام قبول کیا اور جان کی امان پائی۔ لیکن حضورؐ کو اپنے پیارے چھپا کی موت کا اس قدر صدمہ تھا کہ وحشی کو بہایت کی کردہ آپ کے سامنے نہ آیا کہ اس سے چھپا کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وحشی ساری عمر حضورؐ کے سامنے نہیں آیا۔ اپنے کئے پر نادم رہا اور اسلام کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہا۔ حضورؐ کی رحلت کے بعد بیویت کے ایک جھوٹے دعویٰ مدار سیدہ لذاب نے بغاوت کی تو وحشی اس کی سرکوبی میں پیش پیش تھا۔ اور آخر یہ جھوٹا بھی وحشی کے ہاتھوں ہی قتل ہوا۔

قریش مکہ سے سلوک

آپ کے حلم و عفو کا ایک شاندار مظاہرہ اس وقت دیکھنے میں آتا ہے۔ جب آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ کے بدترین دشمن آپ کے دھمکہ مرم پڑھے۔ وہ جہنوں نے آپ پر منظام کی انتہا کر دی تھی۔ جہنوں نے آپ کا مٹھا اٹڑا یا مٹھا۔ گایاں دی تھیں، قتل کے منصوبے بنائے تھے اور دلن

چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سمجھی ہاتھ باندھے آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ خوف کے مارے کاپ رہے تھے اہمیت اپنی زیادتیاں ایک ایک کر کے پا دا آرہی تھیں۔ اہمیت یقین تھا کہ آپ ان سے بدله لیا جائے گا۔

آپ تشریف لائے۔ سمجھی کی نگاہیں آپ پر جمی ہوئی تھیں۔ مختصر ساختہ دینے کے بعد آپ نے اہل مکّہ سے پوچھا کہ تم مجھ سے کس قسم کے سلوک کی تو قع رکھتے ہو؟ سمجھی ایک زبان ہو کر پوئے۔ یقیناً آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ یونکہ آپ ہمارے ہر بانی اور ہر بان بھائی کے بیٹھے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا "آج میں بھی تم سے وہی کچھ کہتا ہو جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ آج تم پر کوئی الزام نہیں اللہ تھیں معاف کر دے اور بیشک وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا حجم کرنے والا ہے" ॥

۸

چھوڑوں کی معافی

مدینہ سے کچھ دور کھجوروں کے جھنڈ اور نبڑہ زار تھے۔ شہر کے جانور دہان چرتے۔ حضور کی بھی کچھ اونٹیاں تھیں، جنہیں چرانے کی ذمہ داری ایک صحابی حضرت سدرؓ کے سپرد تھی۔ ایک روز دہ کسی حاکم سے شہر چلے آئے۔ داں

ا۔ صحیح بخاری پا۔ فتح مکہ

ہوتے تو راستے میں مشہور صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا غلام ملا۔ بولا
سلمہ بحبلہ کرو آنحضرتؐ کی اذنیاں غطفان اور فزارہ والے پکڑ کرے گئے ہیں۔
حضرت سلمہؐ یہ سنتے ہی سرپٹ دوڑے اور تھوڑی ہسی دُور چوروں کو جالیا۔
در اصل وہ پانی پینے ٹھہر گئے تھے۔ حضرت سلمہؐ نے تیروں کی بوچاڑ کر دی
تو وہ گھبرا کر بھاگ اٹھے اور اذنیاں پیچھے چھوڑ گئے۔ حضرت سلمہؐ اذنیاں سے
جانوروں کو گھیر لائے۔ اُدھر حضورؐ کو چوری کی اطلاع ملی تو پرشیانی کے عالم میں
چراگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت سلمہؐ کو جانوروں سمت آتے دیکھا تو اذنیاں
ہوں۔ حضرت سلمہؐ نے پورا قصہ کہہ سنایا اور عرض کی کہ وہ لوگ ابھی پیاسے ہیں۔ اگر
پیچھا کیا جائے تو لازماً پکڑے جائیں گے۔ لیکن رحمۃ للعالمینؐ نے فرمایا، سلمہؐ یہ
خیال چھوڑو، تمہیں مال سے غرض نہیں۔ وہ مل گیا۔ انہیں جانے دو۔ اب تک تو
وہ اپنے ساتھیوں سے جا ملے ہوں گے۔

یہ محض آپؐ کے عفو اور حلم کے سبب تھا ورنہ چوروں کو گرفتار کرنا کچھ مشکل نہ تھا۔

(۹)

پڑو سے در گزد

مسجد کو اللہ کا گزر کرتے ہیں۔ یہ عبادت کی جگہ ہی ہمیں مسلمانوں کی سماجی زندگی میں

اہم مرکز کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ حضور نبی اکرمؐ کا زیادہ تر وقت مسجد بنوی میں گذرتا تھا۔ اس کی صفائی دپائیزگی کا بہت خیال رکھتے اور درستون کو بھی اس معاملہ میں اختیاط برتنے کی تلقین فرماتے تھے۔ اکثر اوقات مسجد کی صفائی اپنے ہاتھ سے فرماتے۔

ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ ایک بد و مسجد بنوی میں آیا۔ تہذیب سے ناواقف اس بخلگی شخص کو مسجد کے احترام کا کچھ علم نہ تھا۔ چنانچہ حاجت ہوئی، تو وہی صحن میں بیٹھ کر پیشاب کر دیا۔ کچھ اور لوگ بھی اس وقت مسجد میں موجود تھے۔ اس کی یہ بد تہذیب اور سب کو گراں گذری کچھ جو شیئے قسم کے لوگ اسے مارنے کے لئے ائمہ، تو حضورؐ نے انہیں بہوک دیا اور فرمایا کہ اسے جانے دو پیشاب پر ایک ڈال پانی پہاڑو۔ کیونکہ بیشک تم نہی اور آسانی کے لئے بھیجے گئے ہوئے کہ تشد و اور سختی کے لئے!

حسن اخلاق

حضرت مسیح کائنات حسن اخلاق کا پہریں منونہ تھے۔ آپ نے کبھی کسی سے زیادتی کی، نہ بمائی۔ بلکہ دوسروں کی زیادتیوں اور بیانوں کا پله بھی محلاً اور بھی سے دیا۔ آپ ہرگز مشتعل نہ ہوتے صبر و تحمل اور ذاتِ حق پر بھروسہ ہیشہ آپ کا شیوه رہا۔

آپ زیر دستوں اور جلکدوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے۔ دینی اور دینیوی طور پر اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہونے کے باوجود ہنر و قندل کے کام آتے اور ان کی خدمت کرنے میں فخر محسوس کرتے۔ غریب اور معاشرہ کے دعوکارے ہونے والوں کے ساتھ خصوصی شفقت فرماتے۔ یہ آپ کے حسن اخلاق کا مرکز تھا کہ لوگ دیوانہ وار آپ کی طرف کھنپنے لپے آتے تھے۔ اور پڑاٹ پا کر دین و دینا میں سرخود ہوتے تھے۔ اس باب میں آپ کے حسن اخلاق کو اجاگر کرنے والے چند واقعات درج کئے جا رہے ہیں۔

①
پد و کی بے و قوفی

ہمارے پیارے رسولؐ بے حد ہمان لواز تھے۔ کوئی بھی ملنے آتا تو بڑی

تو اپنے سے پیش آتے اور اس کے آرام کا پورا خیال رکھتے تھے۔ ایک روز حضور
حوم پاک سے واپس تشریف لارہے تھے کہ راہ میں ایک اجنبی شخصی ملا اور شب بربی
کی درخواست کی۔ آپ اپنے ہمراہ اُسے گھر لے آئے۔ بھانا کھلایا اور سونے کے نئے
بستر دے دیا۔

اب اس کا طرف دیکھئے کہ وہ رسول خدا کا کوئی نادان و شمن تھا۔ اور یا قاعدہ
منصوبہ کے تحت حضور مکر پریشان کرنے آیا تھا۔ رات ہوئی، آپ سو گئے تو اس نے
ایک عجیب حرکت کی۔ بستر پر ہی رفع حاجت کی اور منہ انہیں سیرے میزبان
کو بتائے بغیر چلتا بنا۔ اپنے جی میں بہت خوش تھا کہ سرکار دو عالم کا بستر گندہ کرایا
ہے؛ اور اب وہ پریشان ہوں گے۔

طبع ہوئی، حضور جہان کی خیریت دریافت کرنے اس کے لگرے میں گئے
تو وہ دیکھا کہ وہ خود تو غائب ہے، البتہ بستر گندگی سے لمکھڑا ہوتا ہے۔ کوئی
عام میزبان ہوتا تو آگ بگولا ہو جاتا۔ لیکن سرکار دو جہاں کو ملال تک نہ
ہو۔ برتن میں پافی بھر لائے اور گندگی اپنے ہاتھوں سے دھونے لگے۔

ادھر وہ بے وقوف شخص کچھ ہی دُور گیا تھا کہ خیال آیا کہ وہ اپنی تلوار تو حضور
کے گھر ہی بھول آیا ہے۔ تلوار لیتے واپس آیا تو رحمت للعالمین کو بستر کی صفائی
میں مصروف پایا۔ آپ نے "جہان" کو دیکھا تو تلوار اٹھا کر دے دی اور
اسے ملامت تک ذکر۔ اس اکھڑا اور چاہل شخص پر اس خیں اخلاقی کا اسقدر

اُثر ہوا کہ فوراً رسول اللہ سے معافی مانگی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔

۲

حضرت زید بن حارث

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامنے میں شمالی عرب میں ایک بڑا قبیلہ "بنو کلب" نام کا آباد تھا۔ بنو کلب کی ایک ہمسایہ قبیلے سے رضاقی ہوئی جس میں اُس کے بہت سے لوگ دشمن کے ہاتھ لگ گئے مگر قفار ہونے والوں میں بنو کلب کے سردار کا زید نامی لمحن بیٹا بھی شامل تھا۔ زید بہایت خوبصورت اور ذہین لڑکا تھا۔ اس زمانہ کا رواج تھا کہ جنگی قیدیوں کو غلام کے طور پر بیچ دیا جاتا تھا۔ چنانچہ بنو کلب کے بوجوں کو بھی مکہ لا کر فروخت کر دیا گیا۔ نبی اکرم ﷺ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہؓ نے زید کی خوبیوں کے بارے میں ت تو خرید کر اپنے شوہر کی خدمت پر مأمور کر دیا۔ کہنے کو تو زید فلام تھے۔ لیکن ان کے آقا سرکارِ دو جہاں اُنہیں اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ اور بیٹوں ہی کی طرح پر درش کی، اس حسن سلوک کا نتیجہ یہ نکلا کہ زید اپنے سے والدین کی شفقت اور گھر کے آرام کو بھول گئے اور دل دچان سے اپنے آقا کی خدمت میں مشغول رہنے لگے۔

اُدھر زید کے باپ کا برا حال تھا۔ بیٹے کی جدائی اُسے کسی کرڈ چین نہ لینے دیتی

تھی۔ وہ اس کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ جو ہی اطلاع ملی، کہ اس کا بخت جگر لکھ کے ایک شخص کے پاس موجود ہے، تو فدیہ کے طور پر ایک بھاری رقم لے کر لکھ پہنچا اور پوچھتا پھاتا سر کارِ دوچھان کے گھر پہنچ گیا۔ تاکہ رواج کے مطابق رقم دے کر اپنے بیٹے کو آزاد کر دے سکے۔ اس نے جاتے ہی باری رقم حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دی اور بیٹے کی والپی کی درخواست کی۔

حضور پریشان حال باپ کی داستان سے بہت متاثر ہوتے۔ فرمائے گئے کہ پچھے کویں والپی خریدنے کی نسبت ایک بہتر طریقہ اور بھی ہے۔ کہ خود پچھے سے پوچھ لیا جائے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ چانا چاہے تو میں کوئی پافی پیسہ لئے بغیر آپ کے حوالے کر دوں گا۔

پچھا نچہ زید کو بلا یا گیا، حضور نے ٹووار دکی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ "اس شخص کو پہنچانتے ہو" زید نے جواب دیا یعنی "یہ میرے والد ہیں"۔ یہ جان کر کہ وہ اسے والپی لینے آیا ہے، زید نے کہا۔

"آپ نے مجھ سے بوجبت بھرا سلوک کیا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے ہاں بطور فلام رہنے کو اپنے باپ کے گھر بطورِ اقا زندگی گذارنے پر ترجیح دیتا ہوں۔" حضور زید کے اس جواب سے بے حد متاثر ہوتے۔ رہنے کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ اور اعلان کیا۔ "میں زید کو آزاد کرتا ہوں اور آج سے اسے اپنا بیٹا بناتا ہوں۔" زید کے والد خالی ہاتھ لوٹے۔ لیکن بے حد خوش تھے

کہ ان کا بھی ایک ایسے عظیم انسان کے نبیر سایہ پر درش پائے گا۔ عزیز و فل مون سے حسن سلوک اور محبت و شفقت کی ایسی مثال ڈھونڈتے سے نہ ملے گی۔ زید نامی یہ طراکا بعد میں رسول خدا کا جلیل القدر صحابی بنا۔ اور حضور کی نبوت پر ایمان لانے والے چار ابتدائی اشخاص میں شامل تھا۔

۳

تریہ بن سعہ کا قبولِ اسلام

مدینہ میں ایک مالدار یہودی رہتا تھا اور پیسے کے لین دین کا کام وہ بارگتا تھا۔ کسی کو قرض کی ضرورت ہوتی تو وہ اس سے لے لیتا۔ ایک دفعہ حضور کو بھی کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی تو اُسی سے لے لئے۔ ادا یہی کرنے کے لئے ایک تاریخ مقرر کر لی گئی۔ نہ جانے یہودی کو کیا سوچھی کہ مقررہ تاریخ سے کئی دن پہلے ہی آدم کا اور رقم کی والپی کا مطابق کرنے لگا۔

رسول خدا نے یاد دلایا کہ وعدہ کے مطابق ابھی کچھ دن باقی ہیں اور تب تک کچھ نہ کچھ بندوبست ضرور ہو جائے گا۔ تینیں وہ نہ مانوا اور حضور کی چادر کھینچ کر کہنے لگا۔ ”میں خوب جانتا ہوں“ عبیہ المطلب کے خاندان والوں تم مہیثہ یونہجی حلے پہنانے کرتے ہو۔

حضرت مولانا حضور رسالت اب کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک یہودی کی اس زبان دلازی پر سخت لیش میں آگئے اور کہا۔

”اوہ خدا کے دشمن تو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے؟“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکر اکر فرمایا۔ عمر بن جعفر تو اپنے سے کچھ اور توقع نہیں۔ اپنے کو چاہئے تھا کہ اُسے سمجھاتے کہ نبی سے تعلفنا کرے اور مجھے سے قرض کی ادائیگی کے لئے بھئے۔

اس کے بعد اپنے نے حضرت عمر بن حفیظ سے فرمایا کہ نہ صرف اس کا قرض پڑھا دیں بلکہ بیس صائع کمبو درزادہ دے دیں۔

یہودی حلم و عفو کے اس پُر اثر منظر کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ دوستو! یہ یہودی نزید بن معنہ تھے۔ جو قبولِ اسلام کے بعد حضرت کے بیلِ القدر صحابی بنے اور اپنی دولتِ اسلام کی سر بلندی کے لئے وقف کر دیں۔

برائی کا بدلہ بھلانی

رسولِ خدا کے حلم و عفو کا ایک اور واقعہ ہے کہ اپنے ایک چکر کھڑے چند صحابہ سے باقیں کر رہے تھے۔ حسبِ عادت چادر اور چھپی ہوئی ستحی جن کا کنارہ ذرا موٹا اور کھرد را تھا۔ اتنے میں ایک بد و آیا اور چادر کو ایک کرنے سے پکڑ کر اس طرح سے چھکا دیا کہ اپنے کے شانہ مبارک اور گردن پر نشان پڑ گیا۔ اپنے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور ہنایتِ ملامت سے اس حرکت کی

۱۔ صائم، ذمۃ الرحمات کا رائج یہی باد نامہ آج کے تقریباً تین لکھ کے رابر ۲۰۰۰ میلشواہ۔

وچہ پوچھی تو بد و بڑے اکھڑن سے بولا۔

"اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہو مال تھار سے پاس ہے اس میں سے کچھ میرے اوٹوں پر سمجھی لاد دو۔ یہ سب کچھ تیرا یا تیرے باپ کا تو نہیں ہے۔"

پڑو کی یہ گستاخی اور گفتگو کا انداز حافظن کو سنت ناگوار گزرا، لیکن حضور سردار کائنات کا حلم اند در گزد ملاحظہ ہو کہ یہ سب کچھ من کر مسکرا دیئے۔ فرمایا یقیناً میرے پاس موجود مال اللہ کی امانت ہے۔ اس میں سے مجھے بھی خود رہے گا۔" لیکن ایک بات بتاؤ کہ کیا اب میں تھار سے ساتھ دہی سلوک کروں جو تو نے میرے ساتھ کیا اور ناحق چادر لکھنے کر مجھے ذخیری کر دیا۔" بد بڑہ می بے باگ سے بولا ہرگز نہیں۔ حضور نے یہ رافی سے پوچھا، آخز کیوں؟ بد بولا میں جانتا ہوں کہ تو باتی کے بھے میں برا بی نہیں کرتا۔"

حضرت یہ میں کر مسکرانے لگے اور ساتھیوں کو حلم دیا کہ اس کے ایک ادھر پر جو اور دوسرے پر کھجوریں لاد دیں۔

(۵)

بندی سردار کا قبولِ اسلام

ملaque بند کا ایک سردار شامہ بن اٹا مسلمانوں کا زبردست دشمن تھا اور آئے دن سماں شیش کرتا رہتا تھا۔ حضور نے بہت صبر کیا لیکن جب شامہ کی خواری میں صد

سے پڑھ لیں تو ایک روز کچھ سوار اس کی صرکوئی کے لئے روانہ کر دیئے۔ انہوں نے اسے پکڑا اور مدینہ لا کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ حضورؐ کو اطلاع ہوئی تو تشریف لائے اور شامہ سے پوچھا کہ بتاؤ! اب تمہارا کیا ارادہ ہے۔ وہ بولا کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو کچھ غلط نہ ہو گا میونکہ میں نے پہلے ہی بہت سے خون کر رکھے ہیں۔ اگر معاف فرمادیں گے تو میں یہ احسان یاد رکھوں گا اور اگر فدیہ لینا پسند کریں تو میں ٹری سے ٹری رقہ ادا کر سکتا ہوں،

آپ نے یہ سن کر تقبیہ فرمایا اور شامہ کو غیر مشروط طور پر چھوڑ دیا۔ رہا ہو کر وہ مسجد سے چلا گیا، کچھ لوگ دل میں حیران تھے کہ اتنے بڑے دشمن کو مفت میں چھوڑ دیا۔ لیکن ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ شامہ ہنا وہ حکر نئے کپڑے پہنے بھر سے مسجد میں آگیا۔ حضورؐ ابھی وہیں تشریف رکھتے تھے۔ جبکہ قدموں میں گر گیا اور عرض کی مایا رسول اللہؐ، مجھے دنیا میں بسب سے زیادہ نفرت آپ سے اور آپ کے مذہب سے تھی۔ مگر آپ مجھے سب سے زیادہ محبت آپ سے اور آپ کے مذہب سے ہے۔ یہ کہا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا!

عزیزہ! یہ یقیناً سرورِ کائنات کا حنفی اخلاق تھا جس نے شامہ کے اندر کی دنیا بدل کر رکھ دی اور اسے اسلام کا شیدا بنایا۔

٤

بڑھیا کی مزاج پُرہی

مکہ میں آپ کے گھر کے پاس ایک بڑھیا رہتی تھی۔ مزاج کی انہتائی تیز۔ بے حد طراحتی۔ کسی سے اس کی نہ بنتی تھی۔ ملے ہوئے ناک میں دم کر رکھا تھا جھنور کی مخالفت میں بھی وہ کسی سے ہیچپے نہ تھی۔ اس کا دستور تھا کہ گھر کا کوڑا جمع کر رکھتی اور جو نہیں آپ گلی سے گزرتے، ان پر انہیلی دیتی۔ وہ لمزوڑہ اور اکیلی عورت تھی۔ آقا نے دوچھاں چاہتے تو سختی سے منع بھی فرماسکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا اور اسے من مرہنی کرنے دی۔

بڑھیا کا یہ روز کا معمول تھا اور اس میں ناتھے یا دیر بک کبھی نوبت نہ آتی تھی، مگر خدا کا ایسا ہوا کہ وہ اچانک بیمار پڑ گئی۔ مگر روز گزر گئے۔ اس نے رسولِ خدا پر کڑا نہ سچینی کا تو آپ کو پریشان لاحق ہونی کہ بڑھیا کو کیا ہو گیا۔ ارد گرد سے پوچھا تو پتہ چلا کہ بیمار پڑی ہے۔ ملنے سے لاچا رہے تیارداری کرنے والا کوئی ہے نہیں۔ ملے والوں سے اس کی پہلے ہی نہیں بنتی تھی۔

حضرت نے یہ سنا تو کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر فرما اس کی مزاج پہ سی کے لئے تشریف لے گئے۔ بستر سے لگی بڑھیا کو کھانا کھلایا۔ دوائی پلائی۔ گھر کی ترتیب درست کی اور ادھر ادھر کی باتوں سے دل بہلایا۔ حضور اسکی خدمت میں لگے ہوئے تھے اور وہ دل میں سنت شرمندہ ہو رہی تھی۔ کہ جس شخص کو میں

اتسی نکلیفیں دیتی رہی ہوں وہ اس قدر مذکور ہے جب تک وہ صفتیاب نہ ہو گئی، رسالتاً بُ باقا دُل سے مزاج پر سی کے لئے جاتے رہے اور اس کی ہر ممکن مدد فرماتے رہے۔ پڑھیا اس حین سلوک سے اس قدر متأثر ہوئی کہ اگر دُلگار حضور سے اپنے لکھنا ہوں کی معافی مانگی اور مسلمان ہو گئی۔

وَهُجَادُوَهُجَارِمِنْ هُيَ ہُوَلِ

حضرت رسالتاً نے دین اسلام کی تبلیغی خروجی کی تو دشمنوں نے نہ صرف آپ کی مخالفت کی بلکہ طرح طرح کے الزامات بھی لگاتے۔ کسی نے کہا کہ آپ جادوگر ہیں۔ کسی نے شاعر کہا اور کسی نے دیوانہ ہونے کی چیختی کئی۔ مقصد لوگوں کو ہدایت کرنا تھا، تاکہ وہ نئے دین کی طرف رجوع ذکرنے لگیں۔

انہی دنوں کا ذکر ہے کہ حضورؐ فارِ حرام سے واپس تشریف لارہے تھے کہ راستے میں ایک پڑھبا کو دیکھا۔ سنت پریشان اور سالنس پھولی ہوتی۔ صرف پڑھوٹی سی گھڑی رکھے بھائی چارہ ہی تھی، کبھی کبھی چیچے مڑکہ بھی دیکھیتی، اگر یا کوئی اس کا پیچا کر رہا ہو، حضورؐ کے پاس سے گزدی تو آپ نے پڑی ملائت سے پرچھا۔ پڑی اماں کیا بات ہے۔ پریشان کیوں دکھائی دے رہی ہو۔ اور گھڑی اخلاقیہ ہماری بھائی چارہ ہی ہو، الا اگر گھڑی مجھے دے دو۔ میں تھیں تہداری منزل بھک پھر رہتا ہوں۔ پڑھیا پست خوش ہوئی۔ کچھ لگی کیا پھر چھتے ہو، سنائے شہر میں کوئی جادوگر

آیا ہے۔ نئے دین کی بات کرتا ہے۔ لوگوں پر اس کا اثر بھی ہو رہا ہے۔ میں تو شہر چھپڑ کر جا رہی ہوں کہ کہیں میرا مذہب بھی خراب نہ کر دے۔
 باتوں باتوں میں بڑھیا کی منزل آجتی۔ حضور نے سب پاتیں خاموشی سے مسٹ لیں۔ دالپس ہونے لگے تو بڑھیانے شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی ابیاتم کتنے اچھے انسان ہو۔ مکہ دالپس نہ جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس جادوگر کے چکل میں پھنس جاؤ۔ اس پر حضور مسکرائے اور فرمایا۔ بڑی اتماں میں دہی جادوگر ہوں جس سے تم نفع کر آئی ہو۔

بڑھیا سخت حیران ہوئی کہ اتنا نیک اور سہردار انسان اور لوگوں نے خواہ مکناہ جادوگر مشہور کر رکھا ہے۔ چنانچہ اُسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی اور حضور کے ساتھ ہی مکہ دالپس چلی آئی۔

تدریب اور معاملہ ہمی

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حد دانہ اور معاملہ نہیں شخص تھے۔ فوزِ معاملہ کی تہہ کوہ پہنچ جاتے اور مشکل سے مشکل مسئلہ کا بھی مناسب حل تلاش کر لیتے تھے۔ تاریخ اور سیرت کی کتب اپنے کے نہم و فراست کے راقبات سے بھری پڑی ہیں۔ جن میں سے چند کا ذکر اس باب میں کیا جا رہا ہے۔

①

حجر اسود کی تفصیب

اعلانِ نبوت سے کوئی پانچ سال قبل کا واقعہ ہے کہ سیدنا اور پارشوت سے کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ تعمیر اور مرمت کا کام شروع ہوا تو ہر قسم اور خاندان کے لوگوں نے بڑھ پڑھ کر حصہ لیا۔ دیواریں کچھ بلند ہوئیں تو حجر اسود کی تفصیب پر جگڑا کھڑا ہو گیا، حجر اسود کا تقدس اور احترام زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ پچانچہ ہر کوئی اُسے اپنے ہاتھوں سے دیوار میں لفب کرنا چاہتا تھا، جگڑا پڑھ گیا۔ بعض جو شیلے لوگوں نے تو پہاڑ تک اٹھان کر پیا رہا اس کا نیصلہ صرف تلوار کرے گی۔ فنا میں سنت کشیدگی موجہ دھقی اور رہاں کسی وقت بھی شروع ہو سکتی تھی۔ کہ ایک بورگ اپر ایسے بن میا رہے یہ بجود

پیش کی کہ جو شخص محل صبح سب سے پہلے کعیدہ میں داخل ہو، فیصلہ اسی سے کروایا جائے۔ چنانچہ سب منتظر ہے کہ دیکھیں صبح کون سب سے پہلے حرم پاک میں داخل ہوتا ہے۔ صبح ہوئی سب کی لفڑیں دروازے پر گلی ہوئی تھیں۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ عضور رسالتاًب تشریف لارہے ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہی لوگ خوشی سے پکارائیں۔

"هذا إحمدٌ" ۱ هذالامين اهذا الصادق ؟ قد

د حسیناً بَهْ

ترجمہ:- یہ محمد ہیں۔ یہ امین ہیں۔ یہ سادات ہیں۔ ہم ان پر راضی ہیں۔
ان کا یہ اظہار مسترت بالکل بہاتھا۔ عضور کی دندگی کھلی کتاب کی طرح ان کے سامنے نہیں اور انہوں نے اسے ہنایت صاف سترہ اور پاکیزہ پایا تھا۔
منتظر ہجوم نے سارا قصہ آپ سے بیان کیا، سُن کر عضور نے تیسم
فرمایا، کہ دھے سے اپنی چادر اٹا کر زمین پر بکھاری۔ مجری اسود کو اپنے دستوں مہار کے آٹھا کرہ اس پر رکھا۔ ہر ہر تبلیغے کے ایک ایک نمائندے کو آگے آنے کے لئے کہا۔ یہ مکمل چار شخص تھے۔ سب چادر کا ایک ایک کرد
لکھ کر دیوار تک رہئے اور عضور نے پھر کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے مفرّہ
لکھ پڑ کر دیا۔ آپ کی مقل و داش پر سمجھی علش کرائیں اور یوں ایک
ہنگ ہوتے ہوئے رُک گئی۔

(۲)

حاطبؑ کی جان نخشتی

حضرت حاطبؑ حضورؐ کے ایک صہابی تھے۔ غزڈہ بدد میں شرکت کر چکے تھے۔ ایکے ہجرت کر کے مدینہ پلے آئے تھے، جبکہ باقی خاندان مکہ میں تھا۔ ان کی طرف سے سخت فکر مند رہتے تھے۔ لیکن انہیں مدینہ لانے کی کوئی صورت بھی نہیں بنتی تھی۔ مسلمانوں نے مکہ پر چڑھائی کے لئے تیاریاں شروع کیں، تو حاطبؑ مزید پریشان ہو گئے۔ ان کے خاندان کے لوگ مکہ میں دشمنوں کے زخمیں تھے اور کسی وقت بھی اجتماعی کارروائی کا شکار ہو سکتے تھے۔ چنانچہ بال بھوں کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر حاطبؑ ایک عجیب حرکت کر بیٹھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی جنگی تیاریوں کا حال ایک خط میں لکھا اور ایک علت کے ہاتھ مکہ روانہ کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس خط کی وجہ سے قریش مکہ ان کے احانت مند ہو جائیں گے۔ اور بدله میں ان کے گھر والوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔

گرما خدا کا ایسا ہوا کہ خط لے جاتے والی عورت ابھی مدینہ سے نکلی ہی تھی کہ کچھ مسلمانوں کو اس کی حرکات و سکنات پر شبہ ہوا۔ روک کر تلاشی لی گئی تو خط برآمد ہو گیا۔ معاملہ بہت سنگین تھا۔ چنانچہ اُس سے خط سمیت حضورؐ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ جس کسی نے سنا ہی رافی اور غصے کا اظہار کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے صاحابہ جمع ہو گئے۔ حضرت حاطبؑ کو بھی بلایا گیا۔ بگرتے پڑتے

اور ڈبے سہے سے حاضر ہوئے۔ حضور نے معاشر کی وضاحت کے لئے کہا تو عرض کی "پارسول اللہ میرے ایمان اور اسلام دوستی میں ذرہ بھر فرق ہنس آیا۔ یہ حرکت میں نے محض اپنے اہل فاندان کی محبت سے مجبور ہو کر کی ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ہماری تیاری کا حال سن کر کہ وائے انہیں قتل نہ کر دیں مجھے اسلام کی نفع اور سر بلندی کا پورا یقین تھا۔ میں تو محض ان کے سرایک احسان رکھنا چاہتا تھا" تاکہ وہ میرے اہل و عیال کی جان بخشنی کر دیں۔ میں نے یہ خط نہ تو جا سری کے لئے لکھا ہے اور نہ ہی منافقت میں۔"

ان کا یہ بیان سن کر موقعہ پر موجود صحابہ کی آنکھوں میں نوکن اُتر آیا۔ حضرت عمر خاص طور پر بہت غصے میں تھے۔ فوراً تلوار سوت لی اور حضور سے عرض کی، "پارسول اللہ! مجھے اس دشمن دیں کے قتل کی اجازت دیجیئے۔ اس نے خدا کے رسول اور مسلمانوں سے فائدہ کی ہے۔ ایسے شخص کا وجود نہ میں پر بوجھ ہے اور آپ نے حضرت عمر سے منائب ہو کر مہماہت ملاحت سے فرمایا،

عمر! یہ کیوں ہجولت ہو کہ حاطب اہلو پورتے ہیں۔ آخر کوئی بات تو ہے جسکی وجہ سے خدا نے اہلی ہو پر چشت لادم کر دی ہے۔

پس کر حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور کہا بیٹھ فدا کے رسول کو سب سے زیادہ علم ہے۔

چنانچہ حضرت نے حضرت حاطب کو معاف فرمادیا۔

یہ واقعہ رسول خدا کے تذکرہ و معاملہ فرمی ایک ایسی مثال ہے، جس کی نیلگینیاں بہر کی تاریخ میں نہیں ملتی پس بصحابہ حاطب ابن سلمہؓ کے خون کے پیاس سے ہو رہے تھے۔ بظاہر ان کا جرم بھی کچھ کم گناہ نامہ تھا۔ انہوں نے جاسوسی کی تھی اجوہ صریحًا غداری ہے اور قانون میں اس کی سزا مرد ہی ہوتی ہے۔ لیکن حضور نبی ﷺ کی نظر میں معاملہ کے دوسرا سے پہلو بھی تھے۔ اپنے بال پھول کی حفاظت کا فطری جذبہ، جس سے مغلوب ہو کر حاطبؓ سے یہ حرکت سرزد ہوئی، اس نکتہ نے حاطبؓ کے جرم کی شدت کو کم کر دیا۔ اور ان کے اہل بدز کے اعزاز نے انہیں سزا سے باطل بھی فرار دے دیا۔

﴿۳﴾ تحفہ نہیں رشت

حضرت کی دفاتر سے کچھ عرصہ پہلے اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی۔ عرب کے علاوہ کچھ اور علاقوں میں شامل تھے۔ حملہ کو صوبوں میں تقسیم کر کے انتظام چلاتے کے لئے افسروں کا تقرر کیا گیا تھا۔ نظم و نسق کے علاوہ یہ لوگ مالیات کی وصولی کے بھی ذمہ دار ہوتے تھے۔ حضرت ان لوگوں کا تقرر خود فرماتے اور ان کے کام پر نظر بھی رکھتے تھے۔ یہ لوگ عام طور پر خدا ترس اور زیاندار ہوتے تھے، لیکن کہیں کہیں لاچھی لوگوں کو بھی موقع مل جاتا تھا۔

۱۔ صیغہ بخاری

ایسے ہی ایک افسر کے پارے میں اطلاع ملی کہ بد دیانتی کا مترکب ہو رہا ہے۔ ووگوں سے تھائف وصول کرتا ہے اور عیش کی زندگی گذارتا ہے۔ حضور نے اُسے فوری بُلا بھیجا اور سرکاری رقم کا حساب کتاب طلب کیا۔ وہ شخص دربار رسالت میں پیسوں کی دو ڈھیریاں لگا کر کہنے لگا کہ ان میں ایک تو حکومت کے مالیات اور ٹکیوں کی آمد فی ہے اور دسری ووگوں نے اُسے تحفہ میں پیش کی ہے۔

یہ سُن کر حضور رسالتؐ کو سخت صدر مہ ہوا۔ اسی وقت مسجد نبوی میں اجلاس عام طلب کیا۔ سب صحابہ آگئے تو آپ نے امانت و دیانت اور رزق حلال کے موضوع پر ایک تشویر تقریبی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی سرکاری افسر یہ کیسے کہ سکتا ہے کہ یہ چیزیں ووگوں نے اُسے تحفہ میں دی ہیں۔ یہ تھائف انہیں محفوظ اس لئے ہے کہ وہ حاکم ہے۔ آج انہیں ملازمت سے نکال کر گھر بٹھا دیا جائے تو پھر دیکھیں گے کہ ووگ انہیں تحفے کس طرح دینے آتے ہیں۔ اور اس شخص کو ملازمت سے بے بر طرف کر دیا۔

دوسرا: آج ہمارا معاشرہ اسی قسم کی صورتِ حال سے دوچار ہے۔ رشتہ اور بعنوانی سرکاری ملازمت کا لازمہ سا بن کر رہ گئی ہیں۔ تحفہ تھائف والی بات تو بہت معمولی ہے اسے تو یار لوگ ناجائز سمجھتے رہی نہیں۔ ہمیں پاہنچنے کے اس واقعہ کو ذہن میں رکھیں اور عملی زندگی میں اس سے رہنمائی حاصل کریں۔

حضرت کا مزاج

حضرت رسولِ اکرم مھلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سے ہنسی اور دل بگی کی باتیں بھی کرتے۔ بلکہ چلکی گفتگو سے مزاج پیدا کر کے خود بھی لطف انداز ہوتے اور دوسروں سے صحابہؓ بھی شگفتگی محسوس کرتے۔ یہاں اس بات کا خیال رہے کہ نبی پاکؐ نے سینجیدہ قسم کے مذاق اور کسی کا دل دکھانے والے طرز سے منع فرمایا ہے۔ اور خود بھی اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ کسی کی دل آذاری نہ ہو۔ یہاں پر حضورؐ کے مزاج کے چند واقعات بیان کئے جاتے ہیں۔

(۱)

اوٹ نہیں، اوٹی کا مجھے

ایک رفعہ ایک غریب شخص حضورؐ کے پاس آیا۔ عرض کی یا رسول اللہؐ محنت مزدوری کرتا ہوں، سواری اور بار برداری کے لئے کوئی جانور نہیں، اکثر اوقات پشت پر بھاری بوجھ اٹھا کر چلنا پڑتا ہے۔ جس کی ہمت نہیں ہے، البتہ مہربانی فرمائے اسی کے لئے ایک اوٹ غنیمت کیا جائے۔ تاکہ روزی کمانے میں کچھ آسانی ہو۔ حضورؐ نے اس کی یہ داستان سن کر فرمایا کہ ہم تمہیں اوٹی کا مجھے دیں گے۔

یہچارہ مجموعاً آدمی تھا۔ یہ سُن کر پرشان ہو گیا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ میں بچپے لئے کہ کیا کروں گا، مجھے تو پلا ہوا اونٹ چاہیئے، تاکہ میرے کسی کام آسکے۔ حضورؐ نے قبسم کیا اور فرمایا "کیا اونٹ اونٹ کا بچہ تھیں ہوتا" ।

(۲)

بُوڑھوں کا جنت میں کیا کام؟

مدینہ میں مسجدِ نبوی کے پاس ایک بڑھیا رہا کرتی تھی۔ روزے نماز کا پورا خیال رکھتی رہیں دہم سارہ تاکہ کہیں یہ ساری محنت یوں ہی نہ چلی جائے اور وہ جنت سے محروم رہے۔ چنانچہ ایک روز حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہؐ! خدا کے حضور دعاؤ کریں کہ مجھے جنتِ نصیب ہو۔

حضورؐ اس کی دعیٰ طبیعت سے مختظوظ ہوتے اور مزاگا فرمایا "بڑی بیں؟ کوئی بُوڑھی عورت جنت میں نہیں جا سکتی" یہ سُن کر بے چارہ بہت پرشان ہوئی اور روئی ہوئی اُمّہ کر جانے لگی تو داپس بلکہ بڑی شفقت سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے کے ساتھ کسی کو جنت میں نہیں لے جائیں گے۔ بلکہ وہاں جانے سے پہلے انہیں جوانی سے سرفراز فرمائیں گے:

(۳)

آپ تو گھلیاں بھی کھا گئے

ایک دفعہ مجلسِ جمیٰ تھی، حضرت علیؓ کے علاوہ اور کئی صحابہ حضورؐ کی خدمت

۶۔ شماں ترمذی۔

۷۔ شماں ترمذی۔

میں حاضر تھے۔ حاضرین کی تواضع کے لئے کچھ کھجوریں پیش کی گئیں، حضرت علیؑ حضورؐ کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ حضورؐ کھجوریں کھاتے جاتے اور گھٹلیاں حضرت علیؑ کے آگے رکھتے جاتے۔ محلیں پر خاست ہونے لگی تو حضورؐ نے حضرت علیؑ کے سامنے گھٹلیوں کی ڈھیری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، "علیؑ آپ تو سب سے زیادہ کھجوریں کھا گئے۔ حضرت علیؑ بھی حاضر جوابی میں کچھ کم نہ تھے۔ حضورؐ کے سامنے خالی جگہ کی طرف اشارہ کر کے عرض کی: "یا رسول اللہؐ میں نے گھٹلیوں سمت نہیں کھائیں" یعنی آپ تو گھٹلیاں بھی کھا گئے۔"

(۲)

بھلابوچھو تو، میں کون؟

مدینہ کے نواح میں حضورؐ کے ایک دوست رہتے تھے۔ نام کے بارے میں اختلاف ہے تاریخ کی کچھ کتابوں میں زاہر لکھا ہے اور بعض میں ذہیر آتا ہے۔ ہنایت سیدھے سادھے صحتی انسان تھے اور حضورؐ کو ان کی عادات اس قدر پسند بھیں کہ بے تکلفی ہو گئی تھی۔ ذہیر دیبات میں حضورؐ کے کاموں کا خیال رکھتے جب کہ حضورؐ شہر سے متعلق ان کے کام کر دیتے۔ یہی نہیں بلکہ مزاہ فرمایا کرتے تھے کہ دیبات میں ذہیر ہمارا گماشتمان ہے اور شہر میں ہم اس کے گماشتمان ہیں۔

ایک روز زہیر دیہات سے کچھ سبزیاں اور غلہ لائے اور مدینہ کے بازار میں بیچنا شروع کر دیا۔ حضور کا ادھر سے گذر ہوا تو بیچنے سے جا کر چپکے سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیئے اور پوچھا "بھلا بوجھو تو میں کون ہوں؟" زہیر نے ایک دو بیتے تکلف دوستوں کے نام لائے۔ اُس کے دہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ حضور اس کے ساتھ اس قدر شفقت فرم سکتے ہیں۔ چنانچہ جب معلوم ہوا تو بے اختیار حضور سے پٹ گئے پھر حضور نے مزاٹا کہا "ہے کوئی اس غلام کا خریدار" زہیر نے عرض کی۔ "یا رسول اللہ؟ اس ناکارہ غلام کو کون خریدے گا۔ یہ تو سارے رکھائے کا سودا ہے۔"

حضور نے فرما دیا کہ "فرمایا زہیر واللہ تم خدا کے نزدیک نکلتے اونا کارہ ہنیں ہو۔" ظاہر ہے سرکار دو جہاں کا عزیز دوست، ناکارہ کیونکر ہونے لگا۔

(۵)

حضرت کا فہمیہ

حضرت کا فائدہ تھا کہ ہنسی مذاق اور دل لگی کی بات پر صرف تبسم فرماتے۔ تاہم سیرت کی کتابوں میں کم از کم ایک ایسے موقع کا بھی ذکر ملتا ہے

جب آپ کھل کر ہنسے کہ دانتوں کی نوکیں دکھائی دینے لگیں۔ اس واقعہ کا تعلق
غزوہ خدیق سے ہے۔

کفار کی فوج کا ایک سپاہی ایک صحابی حضرت سعدؓ کے مقابلے میں آیا۔
حضرت سعد تاک کرتیر بھینکتے تھے لیکن وہ بڑی پھر تو نے اُسے ڈھال پر
لے لیتا۔ حضرت سعد ماہر شانہ باز تھے لیکن حمالف سپاہی کی ہمارت بھی کچھ کم نہ تھی،
اس نے اس قدر پیشترے پدلے کہ صحابی رسول زخم ہو گئے۔ حضرت رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابی بھی یہ منظر بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے
آخر کار حضرت سعد نے ایسا تاک کرتیر مارا کہ بیدھا دشمن کی پیشانی میں جا کر
لگا۔ ضرب اس قدر کاری تھی کہ وہ چکرا کر گرا اور مانگیں اور پر اٹھ گئیں اس کی یہ
درجت دیکھ کر حضورؐ خوب ہنسے اور حضرت سعد کو شاباش دی۔

④

رَحْمَةِ جَبَرِيْلِ الْمَهْبَرِيِّ، اَوْ نَسْبَةِ جَبَرِيِّ الْمَهْبَرِ

حضرت جابرؓ حضورؐ کے ایک بے تکلف دوست تھے۔ طبیعت میں قدرے
غصہ اور جھنجھلا پٹھتی۔ سواری کے لئے ایک بوڑھا اور کمزور سا اونٹ رکھ چھوڑا
تھا۔ جو سفر میں ان کے لئے اکثر پریشانی کا سبب بنتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ
حضورؐ کے ہم سفر تھے اور اونٹ انہیں مسلسل پریشان کر رہا تھا۔ ایسے میں ان کی

۱۔ شرائع ترمذی

جھنجھلاہٹ دیکھنے کے لائق تھی۔ حضورؐ کو مذاق جو سوچتا تو اپنے اوپر سنجید گی طاری کریں، مبادا جابرؓ یہ سمجھیں کہ آپ مذاق فرمادے ہیں۔ پوچھا جابرؓ اونٹ پہنچ گے، جابرؓ نے جواب دیا "ضرور یا رسول اللہ لیکن اس شرط پر کہ مدینہ پہنچ کر آپ کے پرد کروں گا۔ حضورؐ نے قیمت پوچھی تو جابرؓ بولے آپ جو دیں گے لے یوں گا، حضورؐ نے مزاہ فرمایا تو پھر ایک درہم کافی رہے گا۔" جابرؓ سپٹا گئے۔ عرض کی یا رسول اللہؐ آپ مجھے ٹوٹنا چاہتے ہیں، حضورؐ نے فرمایا۔ چلو پھر دو درہم لے لو۔ جابرؓ نہ مانے جضورؐ مذاق ہی مذاق میں دام بڑھاتے گئے۔ آخر کار حضرت جابرؓ چالیس درہم مرضا مند ہو گئے۔ یوں سہنسی خوشی سفر کیا اور قافلہ مدینہ پہنچ گیا۔

مدینہ پہنچ کر حضورؐ کے ذہن سے یہ بات اتر گئی۔ لیکن حضرت جابرؓ تو اپنی طرف سے سودا چکا بیٹھے تھے۔ اگلے روز اپنا مریل سا اونٹ لئے حضورؐ کے پاس جا پہنچے۔ عرض کی یا رسول اللہؐ اپنی امانت لیں اور مجھے چالیس درہم دے دیں۔ حضورؐ، حضرت جابر کی سادگی سے بہت مخنوظ ہوئے۔ تاہم اُسی وقت قیمت ادا کر دی اور اونٹ بھی حضرت جابرؓ کو واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ اسے میری طرف سے ہدیہ رکھو۔ حضورؐ کی طرف سے تحفہ پانے کے بعد حضرت جابرؓ نے اس اونٹ کی تواضع کی۔ اس سے کام لینا چھوڑ دیا۔ اچھی خوراک اور آرام کا نتیجہ یہ ہوا کہ خوب تازہ اور صحت مند ہو گیا۔ اور آخری دم تک حضرت جابرؓ کے

پاس رہا۔

(۶)

بُد و کا مجموعہ

حضرت مسجد بنوی میں تشریف فرماتھے۔ مدینہ سے باہر کے بھی کچھ لوگ حاضر تھے۔ جنت اور زرخ اور مرنے کے بعد کی زندگی پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اور حضور فرماتھے کہ جنت میں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ مثال کے طور پر بیان فرمایا کہ مرنے کے بعد ایک نیک شخص جنت میں گیا۔ خداوند کریم کے حضور عرض کی کہ میں جنت میں کھیتی باڑی کر دیں گا۔ مگر چاہتا ہوں کہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ ادھر زیع بود، اور ہر فصل پک کر تیار ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش قبول کر لی۔

جس وقت حضور یہ واقعہ بیان فرماتھے، ایک بدو بھی مجلس میں موجود تھا۔ بات ختم ہوئی تو سرداہ بھر کر کہنے لگا کہ یہ نعمت اور سہوت تو صرف مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو ہی نصیب ہوگی۔

رسالتِ اب چونکے اور پوچھا آخر کیوں؟

بدو بڑی سادگی سے بولا کیونکہ یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور ہم تو اس سے واقف ہی نہیں۔ حضور اس کی سادگی اور بھولپن سے بہت محظوظ ہوئے۔

محنت کی غلطیت

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت و مشقت کی زندگی بسرا کی۔ اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے۔ پکڑا پھٹ جاتا تو خود سی لیتے جو تے کی مرتب خود کر لیتے۔ گھر کے کام میں ازدواج مطہرات کا ہاتھ ٹھاتے تو ٹڈیوں اور فلامبوں کے کام آنے کو بھی عار نہیں سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام کے ساتھ کہیں چانا ہوتا تو خدمت کا کوئی نہ کوئی کام اپنے ذمے مزور لے لیتے تھے۔

حدیث مبارک ہے:

الَّذِي أَنْبَأَنَا رَبِّيْبُ اللَّهِ وَتَرَجَّبُهُ، هُنْزَمَنْدُ اللَّهِ كَادُوْسْتُ هُنْزَمَنْدُ

①

حضرت نبی نے لکھ لیا ہیں

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ پندرہ دوستوں کے ہمراہ ایک سفر پر تشریف لے گئے۔ شام ہوئی تو بھوک چک اٹھی۔ قریب ہی صحرائیں ایک گذریا بھیڑیں چڑا رہا تھا۔ ایک صحابی گئے اور گذریے سے ایک بھیڑ خریدیا۔ دوسرے

نے کہا کہ میں اسے ذمہ کر لیتا ہوں۔ تیسرے بولے کہ میں کھال آتا رہوں گا۔
 چوتھے صحابی نے گوشت پکانے اور کھانا تیار کرنے کی حامی بھر لی۔ بغرض سب
 ساتھیوں نے خوشی خوشی کوئی نہ کوئی کام اپنے ذمہ لے لیا۔ دراصل انہیں تو پیار نے
 رسول کی خدمت کا موقع ملا تھا۔ اور وہ اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ لیکن
 رسول خدا کو یہ پسند نہ تھا کہ اور لوگ تو کام میں مصروف ہوں اور وہ خود آرام سے
 بیٹھے رہیں۔ چنانچہ جب سب نے ایک ایک کام اپنے ذمے لے لیا تو حضور نے
 کہا کہ میں جلانے کے لئے خشک لکڑیاں اکٹھی کر دوں گا۔
 صحابہ نے بہت اصرار کیا کہ یہ کام بھی وہ کر لیں گے اور حضور آرام فرمائیں۔
 لیکن آپ نے فرمایا "میں لکڑیاں ضرور لا دوں گا۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ سب
 تو کام کریں اور میں کوئی مدد نہ کر دوں۔"
 چنانچہ آپ لکڑیاں لا نئے اور کھانا تیار کرنے میں ساتھیوں کی مدد کی۔

۲

حضرت پھر توڑے

مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان رڑی جانے والی جنگوں میں غزوہ خندق
 کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے کھلے میدان میں مقابلہ

لئے صحیح نجادی

کرنے کی بجائے مدینہ کے گرد گھری کھائی یا خندق کھو دی۔ اور شہر کے اندر رہ کر شہر کا مقابلہ کیا۔ خندق کھو دنے میں سب مسلمانوں نے حصہ لیا جن میں حضور مجھی شامل تھے۔ صحابہ نے بہت چاہا کہ حضور مشقت کے اس کام میں حصہ ہیں۔ لیکن آپ نہ مانے اور سب کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے، اتحاد کا زمانہ تھا۔ بعض دفعہ صحابہ کو کئی کئی دن کھانا فصیب نہیں ہوتا تھا۔ مجبوک تنگ کرتی تو پیٹ پر پھر بازدھ لیتے۔ کھانی جاری تھی کہ ڈیا سا پتھر راہ میں حائل ہو گیا، ٹوٹتا تھا، نہ راہ سے ہٹتا تھا۔ کام بند ہو گیا تو صحابہ نے حضور کو آگاہ کیا۔ چنانچہ آپ نے خود کُدالے کر اس پتھر کو توڑنا شروع کر دیا۔ یہ سخت مشقت کا کام تھا۔ حضور پیسے میں شرائور ہو گئے۔ لیکن پتھر کو رینہ بیڑہ کر کے ہی دم لیا۔

۳

غیریں الفصاری

مدینہ میں ایک الفصاری رہتا تھا، بے حد غریب، کوئی ساز و سامان تھا نہ کوئی جاندا۔ جوں توں کر کے گزر کر رہا تھا۔ بہت لا چار ہوا تو ایک دن رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور مدد کی درخواست کی۔ حضور نے اس کی بپتا سُنی

اس صحیح بنواری

تو فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی چیز تو ہوگی۔ انعامی نے عرض کی، یا رسول اللہؐ
صرف ٹھٹ کا ایک مکڑا ہے اور ایک پیالہ۔ یہی میری محل کائنات ہے۔ ٹھٹ
کبھی فرش پر بیٹھا لیتا ہوں، کبھی اور ڈھلتا ہوں اور پیالہ پانی پینے کے کام آتکے ہے۔
آپ نے فرمایا کہ جاؤ دلوں چیزیں لے آؤ۔

انعامی دلوں چیزیں لئے آیا تو حضورؐ نے صاحاب سے پوچھا کہ اس ٹھٹ اور
پیالے کو کون خریدتا ہے۔ ایک صاحب نے دو درهم میں یہ چیزیں خرید لیں۔ حضورؐ
نے رقم انعامی کے سپرد کی اور فرمایا ایک درهم کا کھانے پینے کا سامان ہے کہ
گھر چھپڑ آؤ اور ایک درهم کی ایک رسی اور کلہاری خرید لو۔ کل سے جنگل میں جاؤ،
لکھ میں کاٹو اور فروخت کرنے کے گذارہ چلاو۔ انعامی چلا گیا۔ کچھ روز بعد دوبارہ
حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور بتایا کہ وہ آپ کی تباہی ہوئی ترکیب پر عمل
کر رہا ہے۔ اب نہ صرف گذارہ خوب چل رہا ہے بلکہ اس نے کچھ رقم بچت کر کے
جتنے بھی کر لی ہے۔

۲

ایک اونٹ تین سوار

جنگو ہدر کے موقع پر مسلمانوں کے پاس مال و اسیاب کی سنت کی سی بیواری
کے لئے پورے چاند تک نہ تھے۔ تین آدمیوں کے حصے میں ایک اونٹ آتا تھا۔

تین تین کے گرد پ بننے لگے تو حضورؐ بھی ایک میں شامل ہو گئے۔ صحابہ نے پہترا چاہا کہ حضورؐ اکیلے ہی ایک اونٹ لے لیں۔ لیکن آپ نے قبول نہ فرمایا۔

شکر روانہ ہوا۔ تو رسالتِ آپ کے دونوں سامعین نے اصرار کیا کہ آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں اور وہ باتھ پیدل چلنے کو سعادت سمجھیں گے۔ لیکن رحمۃ للعالمینؐ نے بڑی ملامت سے منع کر دیا اور فرمایا۔ تم لوگ مجھ سے زیادہ نہیں پہل سکتے۔ یوں اپنی باری پر سوار ہوتے اور پیدل چلتے اینداں پدر بیک پہنچے۔

عزمیہ دستورِ کمال کرنے کا سپہ سالار اور حاکم ایسی شان قائم کر لکتا ہے و یقیناً نہیں۔

⑤

تعمیر مسجد میں حصہ

مسلمانوں کی مذہبی اور معاشری زندگی میں مسجد کو ہنایت اہمیت حاصل ہے۔ حضورؐ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر کا طرف دوجہ دی۔ اور اس مقصد کے لئے اپنی رہائش کے پاس ہی ایک مناسب ساقطہ اراضی حاصل کر لیا۔

تعمیر شروع ہوئی تو سمجھی نے نہایت ذوق و شوق کا منظاہرہ کیا۔ دوسرے
 صحابہ کے ساتھ ساتھ حضور خود بھی اینٹیں پتھرا اور تعمیر کا دوسرا سامان اٹھا لٹھا
 کر لاتے رہتے۔ صحابہ کو یہ کچھ عجیب پہاڑگا کہ ان کے ہوتے ہوئے آپ مشقت
 اٹھائیں اچھا بچہ عرض کی یا رسول اللہ : آپ اطہیان سے تشریف رکھیں۔ ہم سارا کام
 کر لیں گے۔ لیکن حضور نے ممنظر نہ فرمایا اور کہا کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ تو کسی
 خوش تنصیب کو ملتا ہے۔ مزید فرمایا ، نبھل یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سب لوگ
 کام کریں اور میں فارغ بیٹھا رہوں۔ مجھے بھی اپنے ساتھ شامل رہنے دو۔
 سبحان اللہ ! محنت کی عظمت اور مساوات کا اس سے بڑھ کر عملی درس
 اور کیا ہو سکتا ہے۔

مخدودوں سے خصوصی شفقت

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخدودوں سے خصوصی شفقت فرماتے ہیں کسی بات کا پڑانہ مناتے۔ زمانہ جاپلیت میں انہیں حیر خیال کیا جاتا تھا اور شرف اور ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا معیوب سمجھتے تھے۔ حضور سردار کائنات نے مصیبت کے مارے اس طبقے کو معاشرہ میں اعلیٰ مقام دیا۔ ان میں خدا عتمادی کا جذبہ پیدا کیا۔ اور معاشی طور پر خود کیفیل کر کے انہیں معاشرہ کا معزز رکن بنادیا۔ ذیل میں مخدودوں کے ساتھ حضور کے چون سلوک کے کچھ واقعات دیئے جا رہے ہیں۔

① پاگل لڑکی

مدینہ میں ایک لڑکی رہتی تھی۔ وہنی طور پر مخدود ہونے کی وجہ سے عجیب و غریب حرکتیں کرتی، سارا دن شہر کی گلیوں میں گھومتی۔ کبھی تو دنوں خاموش رہتی اور کبھی مسلسل واویلہ کرتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضور صاحبہ کے ساتھ مسجد بنوی میں تشریف فرماتھے کہ وہ آن پہنچی۔ آتے ہی رسالتہاب کا ہاتھ پر لکڑ کر گھنپھنے لگی اور کوئی کام کہا، حضور رضا کے ساتھ ہبایت شفقت سے پیش آئے۔ سر پر ہاتھ

نپھرا اور فرمایا "بی بی میں تھا سا کام ضرور کر دیں گا" چنانچہ آپ اس کے ساتھ گئے اور حاجت روائی فرمائی ۔

۲

عبداللہ ابن ام مکتوم

عبداللہ ابن ام مکتوم حضرت خدیجہؓ کے ماں مولانا داد بھائی تھے۔ نابینا تھے۔

تعلیم کا بہت شوق تھا۔ ایک دن حرم میں حضورؐ مکہ کے سرداروں کو دین اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے تھے کہ ابن ام مکتوم بھی ایک شخص کے ہمراہ آن پہنچے اور آتے ہی بڑی پیغمبری سے کہا یا رسول اللہؐ خدا کے عطا کردہ علم میں سے مجھے بھی سکھائیں ۔

پرانکہ آپ دوسروں سے مخاطب تھے، چنانچہ نابینا کے ساتھی کو اشارے سے سمجھایا۔ اس نے ابن ام مکتوم کو خاموش رہنے کے لئے کہا۔ مگر وہ نہ ملتے اور پھر سے گفتگو میں مداخلت کی۔ اس پر حضورؐ نے ائمہ دوسری طرف کر کے دیگر حاضرین سے گفتگو چاری رکھی۔ آپ کا خیال تھا کہ شاید قریشی سرداروں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔

عذر رسانیاً نے ابن ام مکتوم کو نہ توجہ کا اور نہ ہی پر اور است خاموش ہونے کو کہا بلکہ اس کے ساتھی کو اشارے سے سمجھایا اور خود بات تحریم کر کے توجہ فرمانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ لیکن اس پر دھی نازل ہوئی اور یہ واقعہ

قرآن حکیم کی سورہ عبس کا شانِ نزول بنا۔ جس میں حضورؐ کو ایسا کرنے سے منع فرمایا گیا۔

حضور رسالت کی نیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی علم تھا۔ اور حضور سرورِ کائنات سے کسی قسم کی کوتاہی (نحوذ باللہ) کے سرزد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس وجہ کا مقصد مغذور انسانوں کے دنوں میں خود اعتمادی بحال کرنا اور معاشرے کو انسانی مسادات کا درس دینا ہے۔ یہ این اُمّ مکتوم جلیل القدر صحابی بنے۔ موذن مقرر ہوئے اور حضور جنگ میں شرکت کے لئے مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو انہیں شہر میں اپنا نائب مقرر فرماتے جو دیگر ذمہ دار یوں کے علاوہ حضورؐ کی جگہ امامت بھی کرتے۔

(۳)

بصیر کی عیادت

احادیث کی کتابوں میں ایک اور نابینا شخص کا ذکر ملتا ہے۔ نام بصیر تھا۔ اور انضاد کے ایک قبیلے بنی واقف سے تھن رکھتے تھے۔ ایک دفعہ بیمار پڑ گئے تو حضورؐ کئی صحابہ سیمت ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے مقصداً یہ تھا کہ لوگ زمانہ چاہلیت کے روایج کے مطابق مغذوروں کو حقیر مخلوق نہ سمجھیں،

معدوروں میں تہائی کا احساس پیدا نہ ہو۔ بلکہ وہ سمجھیں کہ ان کے بجائی بندان میں دلچسپی لیتے ہیں اور انہیں معاشرے کا باععت رکن خیال کرتے ہیں۔

(۲)

آپ کو تو نظر آتا ہے

ہمارے ہاں معدوروں سے سہ روی کار دا ج ہے۔ ہم ان پر ترس کھاتے ہیں ایسا کر کے بز عم خود تو ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں پر اس کا اثر بُرا پڑتا ہے۔ وہ ہبھنے آپ کو ناکارہ اور معاشرے کا بوجھ خیال کرنے لگتے ہیں، ان کے ذہنوں میں ایک طرح کا احساس جرم پیدا ہوتا ہے اور وہ معاشرے سے کٹ کر رہ جاتے ہیں۔

حضرت مسرو رکانات نے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا کہ یہ لوگ پڑا عتماد ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں گھُل مل کر رہیں۔ انہیں تہائی کا احساس نہ ہو۔ چنانچہ ابن اُمّ مکتوم نے معدوں کے سبب گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت مانگی، تو حضور نہ مانے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کا لوگوں سے ملننا چلتا اور تعلق قائم رہے۔ اسی طرح یہ صاحب ایک روز حضور کے گھر آئے تو آپ نے نے حضرت میمونہؓ اور اُم سلمہؓ کو پردہ کرنے کے لئے کہا۔ اس پر انہوں نے عرض کیا رسول اللہؐ یہ تو نابینا ہیں۔ آپ نے فرمایا بیشک، لیکن تمہیں تو

نظر آتا ہے۔

گویا کہ ایک ناپینا شخص کی عزت نفس کا خیال رکھا گیا۔

(۵)

بن لٹے غازی

شہر میں تبک کی قہم پیش آئی۔ اسلامی شکر کا میاب ہوا۔ سمجھی خوش کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا کیا۔ حضورؐ بھی ہمراہ تھے۔ مدینہ پر نظر پڑی تو فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے نہ تو شکر میں شرکت کی، د منزلیں لے گئیں۔ مدینہ ہی میں رہے مگر پھر بھی وہ غانہ یوں کے ساتھی ہیں۔ صحابہ کو تجسس ہوتا کہ آخر دہ کوئی لوگ ہو سکتے ہیں۔ پوچھا تو رسول اللہؐ نے فرمایا وہ منذور لوگ ہیں جو جذبہ چہاد رکھنے کے باوجود خدر کی بنا پر شرکیں نہ ہو سکے۔ بسخان اللہ۔ کیا کوئی اور دین منذوروں کو یہ مقام و مرتبہ عطا کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں، یہ اعزاز صرف اور صرف اسلام ہی کو حاصل ہے۔

(۶)

بلالؓ کی لگن

حضرت بلالؓ جیشہ کے باشندے تھے۔ مکہ کے ایک قریبی مردار کے

۱۔ حضورؐ کی ازادی مطہرات۔

پاس ملازم تھے۔ اسلام قبول کیا تو مظالم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ خالم مالک نے دیگر اذیتوں کے علاوہ آپ کی زبان کو بھی نقصان پہنچایا تاکہ انہیں اللہ اور اسکے رسول کا نام لینے سے باز رکھ سکے۔ لیکن یہ سب تدبیریں بے کار گئیں۔ حضرت بلالؓ نے صرف اسلام پر کار بند رہے بلکہ پسلے سے بھی زیادہ پختہ ہو گئے۔ تاہم جسمانی اذیتوں کا اثر عمر بھر رہا۔ عرصہ تک بولنے سے قادر رہے۔ بعد میں زبان چل تو پڑی، لیکن تلاہٹ عمر بھر پر قرار رہی۔ یہ ایک طرح سے نیم معدودی کی حالت صحی۔ بات کی ادائیگی اور سمجھانے میں دشواری حسوس ہوتی تھی۔

نبی کریمؐ حضرت بلال کو بے حد عزیز رکھتے تھے۔ انہیں مسجد بنوئی کا مودُّن مقرر فرمایا۔ زبان میں لکنت کے سبب اَشَهَدُ أَنَّ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کے الفاظ صحیح طور پر ادا نہ کر سکتے تھے۔ ”ش“ کی بجائے ”س“ بولتے۔ کچھ صحابہؓ نے کسی اور صحیح زبان شخص کو مودُّن مقرر کرنے کی تجویز پیش کی تو حضورؐ نے یہ کہتے ہوئے رد فرمادی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلالؓ کی ”غلط زبان“ ہی پسند ہے۔



دل کا اندھا

رجمۃ للعالمینؐ کا یہ رویہ صرف مسلمان معدودوں کے ساتھ ہی نہیں تھا بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی محبت و شفقت سے پیش آتے تھے۔ غزوہ الحد میں

شرکت کے لئے روانہ ہوئے، اسلامی سپاہ کا ایک وسٹہ ہمراہ تھا۔ دفاعی نقطہ نظر سے آپ اپنی روانگی کو پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ قام گذرگاہ کی بجائے مدینہ کے محلہ بنی حارثہ سے ہو کر گزرے۔ یہ منافقوں کی بستی تھی اور المر جع بن قبیطی نام کا ایک دشمن رسولؐؐ بھی وہاں رہتا تھا۔ یہ شخص نامینا تھا، لیکن اسلام کی مخالفت میں ہمیشہ پیش پیش رہتا تھا۔

اس نے آواز سے حضورؐؐ کو پہچان لیا اور لگا واہی تباہی بکنے صحاہ کو اس کی بد قیمتی پر سوت غصتہ آیا۔ چنانچہ پکڑ کر سزا دینا چاہی۔ حضورؐؐ نے منع فرمادیا اور کہا کہ اس سے کچھ نہ کہو یہ صرف آنکھ ہی ہنس بلکہ دل کا بھی انداھا ہے۔

جانوروں سے ہمدردی

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں سے بھی بہت ہمدردی اور محبت سے پیش آتے تھے اس سلسلہ میں سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں کئی واقعات ملتے ہیں۔ چند ایک کا ذکر ذیل میں کیا جا رہا ہے۔

(1)

فاختہ اور اس کے پنجے

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کسی غزوہ میں شرکت کے لئے جا رہے تھے۔ کہ ایک شخص نے روماں میں لپٹی ہوئی کوئی چیز آپ کی خدمت میں پیش کی۔ حضور نے گرد کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فاختہ اپنے بچوں کو پروں کے نیچے سمیٹ دیا ہے۔ پوچھنے پر اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ میں جنگل سے گزر رہا تھا کہ ایک جھاڑی میں ان بچوں کو دیکھا مجھے اچھے لگے، تو روماں میں ڈال کر چلتا تبا۔ ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ سر پر کسی پرندے سے پھر پھڑاہٹ اور چیخنے کی آوازیں سنیں۔ اور پر دیکھا تو بچوں کی ماں فاختہ

بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ میں نے رومال زمین پر پھیلایا تو وہ بھی
بچوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ چنانچہ میں نے سب کو پیش اور آپ کے پاس
لے آیا۔

یہ شن کر حضورؐ کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ اسی شخص سے فرمایا کہ ان مخصوص پرندوں کو بے گھر کر کے تم نے کوئی اچھی بات نہیں کی اور حکم دیا کہ انہیں اسی وقت گھونسے میں واپس رکھ کر آؤ۔

بُوڑھا اونٹ

ایک دفعہ حضرت رسول اکرم مدنیہ کی ایک گلی میں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک طرف سے سورا مٹھا، حضور نے دیکھا کہ ایک اونٹ بھاگا آ رہا ہے اور پیچے کچھ بوگ ہیں۔ رسول اللہ کے ہی تھے کہ اونٹ آپ کے سامنے گھٹنے لیکر بیٹھ گیا۔ آپ نے شفقت سے اس کی لپشت پر ہاتھ پریز استئنے میں وہ بوگ بھی پہنچ گئے جو اُسے کپڑنا چاہتے تھے۔ آپ کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ اونٹ بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور کام کا ج کے قابل نہیں رہا۔ چنانچہ آب دہ اُسے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بات کر رہے تھے تو اونٹ رحمتِ دو عالم کو عجیب بے لبی سے دیکھ رہا تھا۔ اس پر حضور کو

رحم آگیا۔ مالکوں سے فرمایا کہ اس اونٹ نے لمبے عرصے تک آپ لوگوں کی خدمت کی ہے: اب اگر دُہ بُڑھا اور کمزور ہو گیا ہے تو آپ بھی اس کی محظوظی سی خدمت کر دیں۔ ان لوگوں نے حضورؐ کی بات مان لی اور اونٹ کو آزاد کر کے پرنے کے لئے کھل چھوڑ دیا۔

(۲)

کتیا اور اُس کے پتے

جانوروں سے شفقت کے معاملہ میں حضورؐ پالتوا اور آوارہ کی تمیز نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ کسی ہم پر جارہے تھے کہ راستہ میں ایک کتیا کو دیکھا کہ مزے سے یعنی بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ حضورؐ کو انکے آرام کا اس قدر احساس ہوا کہ فوجوں کو راستہ چھوڑ کر گذرنے کا حکم دیا۔ یہی نہیں بلکہ ایک سپاہی کو وہاں کھڑا کر دیا تاکہ پیچے آنے والوں کو بھی ادھر نہ جانے دے، مہادا جانوروں کے آرام میں خلی آئے۔

(۳)

پیاساگتا

حضرت رسولِ اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نہ صرف خود جانوروں پر شفقت

فرماتے بلکہ صحابہ کو بھی ایسا کرنے کی تلقین کرتے۔ ایک روز صحابہ کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں موجود تھی۔ انسان کے جذبہ رحم اور شفقت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ موضوع کی وضاحت کے لئے حضور نے ایک حکایت پیان کی۔ فرمایا کہ ایک شخص جنگل میں چلا جا رہا تھا۔ گریوں کا موسم اور دوپہر کا وقت تھا۔ پیاس لگی تو ایک کنوئی پر پہنچا۔ دیکھا کہ نہ دُور ہے نہ ڈول۔ پانی تک لکے پہنچا جائے۔ بڑھن جوں توں کر کے کنوئی میں اُٹا اور پیاس بجھائی۔ ابھی باہر نکلا ہی تھا کہ دیکھا کہ ایک کتابی ٹانپتا کا نیتا آن پہنچا ہے اور کچھ چاٹ رہا ہے۔ بالشت بھرزان باہر نکلی ہوئی تھی اور سخت پیاسا نامعلوم ہو رہا تھا۔ اس شخص نے سوچا کہ یہ بھی میری طرح جاندار ہے اور اس کی پیاس بجھائی جائے۔ چنانچہ دوبارہ کنوئی میں اُٹا اور اپنے مرزوں میں پانی بھر لایا۔ کتنے نے پانی پیا تو جان میں جان آئی اور دُم ہلاتا ہوا ایک طرف کو بھاگ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاندار کے ساتھ اس شخص کی یہ شفقت اور ہمدردی اس قدر پند آئی کہ انعام کے طور پر اسے بخش دیا۔ صحابہ بڑی دلچسپی سے قصہ سن رہے تھے۔ بات ختم ہوئی تو پوچھا یا رسول اللہ؟ کیا جانوروں پر بھی رحم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔

آپ نے فرمایا 'بیشک'!

ادبیاتی انتساب ادب، پاپ رحمۃ الرحمن سے والہام

۵

بڑھیا کی بیتی

اسی طرح آپ نے صحابہ کو ایک اور داعمہ سنایا کہ ایک بڑھیا نے
بیتی پال رکھی تھی۔ نہ جانے اُسے کیا وہم ہو گیا تھا کہ معصوم جانور کو ہر وقت
باندھے رکھتی۔ اس کی خوراک کا بھی خیال ہنس رکھتی تھی۔ بیتی مجھ ک سے
نہ ہے چین ہو کہ چینتی چلاتی، لیکن قائم بڑھیا پر اس کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ یہ
نئی جان کب تک برداشت کرتی۔ آخر ایک روز اللہ کو پیاری ہو گئی۔
بڑھیا اس ظلم کی پاداش میں بیدھی جہنم میں گئی۔

دوستو! آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیارے رسول جانوروں کا کتنا خیال رکھتے
تھے۔ بھی آخران میں بھی جان ہوتی ہے۔ ان کے جذبات و احساسات بھی انسانوں
کی طرح کے ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض نپے جانوروں کو تنگ کرتے
ہیں۔ انہیں حارتے پیٹتے ہیں۔ پرندوں کے انڈے اور نپے گھونسوں سے
زکال کرہ خلائ کر دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آئندہ وہ ایسی حرکت کبھی ہنسی
کریں گے۔

بُجھاؤ۔ بُجھاؤ

ایک دفعہ آپ کچھ صاحبوں کے ہمراہ ایک سفر پر تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک جگہ آرام کے لئے رُکے۔ صاحبوں کھانے پینے کی تیاری کرنے لگے۔ حضور کسی کام کی غرض سے محتوازی دیر کے لئے کیپ سے باہر تشریف لے گئے۔ والپ آئے تو ویکھتے ہیں کہ چوڑھا تیار ہے اور اس میں آگ بھی جلائی چکی ہے۔ بنور ذمکھا تو پتہ چلا کہ اس جگہ پر چینیوں کا سوراخ مٹھا بو۔ اب جان بچاتے کے لئے عباگ رہی تھیں۔ کہ کہیں جل کر راکھنا ہو جائیں۔ بے زبان مندوق کو تخلیف میں دیکھ کر رحمۃ الل تعالیٰ میں بے کل ہو گئے اور صاحبوں کو حکم دیا کہ فرمی طور پر آگ بچاویں اور چوڑھا کسی اور جگہ نباشیں!

سادگی اور صفائی

ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سادہ زندگی بسر کرتے تھے معمولی بیاس پہنچتے۔ تشتت عام طور پر زمین پر ہوتی۔ صحابہ کے ساتھ محفل میں اس انداز سے بیٹھتے کہ باہر سے آنے والوں کو آپ کی شناخت مشکل ہو جاتی۔ آپ اسلامی ریاست کے سربراہ تھے۔ لیکن سکرانوں کے سے جاہوجلال سے کوسوں دُور۔ دوسرے شہروں یا ملکوں سے دُزدآپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ کی سادگی پر سخت حیران ہوتے۔ ان کی نگاہ میں تو اپنے بادشاہوں کی شان و شوکت ہوتی ہتھی۔ مگر یہاں تو معاملہ ہی دوسرا مھما۔

(1)

شایعہ عجا

بعض صحابہ نے ان دنوں کی حیرانی کو محسوس کرتے ہوئے سوچا کہ کہیں یہ لوگ مذہب اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم نہ کریں۔ ان صحابہ

کی رائے پر تھی کہ حضورؐ کو بیرونی دنودھ سے ملاقات کے وقت عمدہ قسم کا بھاری بھر کم
بیاس زیب تن کرنا چاہئے تاکہ ان اجنبی لوگوں پر اسلام اور پھر اسلام کا رُعب پڑ سکے۔
چنانچہ انہوں نے باہمی مشورے سے کہیں سے ایک شاہی عبا پیدا کر لی۔ اب مسئلہ
اسے حضورؐ کی خدمت میں پیش کرنے کا تھا۔ کوئی صحابی بھی یہ جرأت نہیں کر دیتا تھا،
مگر اسے حضورؐ نا راض ہو جائیں۔ آخر کار مسب کے کہنے پر حضرت عمرؓ نے یہ شاہی بیاس
رسولؐ کی خدمت میں یہ کہہ کر پیش کیا کہ اسے بیرونی دنودھ کی آمد پر زیب تن
فرما لیا کریں۔ اور یہ جمیع کے دن بھی کام آئے گا کہ آپ اسے پہن کر خطبہ دے
سکتے ہیں۔

ظاہر یہ تجویز پیش کرتے وقت حضرت عمرؓ نے اس زمانے کے بارشاہوں
کے جادہ و جلال اور شان و شوکت کو ذہن میں رکھا تھا۔ لیکن حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے صحابہ کرام کی غلط فہمی یہ کہہ کر دُرد فرمادی کہ مسلمانوں کا پیشوں شاہزاد
جادہ و جلال کے لئے مسجوت نہیں ہوا ہے۔ اور جو شخص اس کو پہنتا ہے۔ آخرت میں
اس کا کچھ حصہ نہیں۔

۲

ہمارے لئے آخرت ہی بہتر ہے

حضرتؐ کا رہائشی حجرہ مسجد نبوی کے صحن کے ساتھ ہی تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کچھ

کمرہ تھا جس میں آپ کے روزمرہ استعمال کی چیزوں پڑی رہیں اور فراغت
 کے وقت آپ وہاں آرام بھی کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ حضور دوپہر
 کے وقت اپنے تجھے میں آرام فرمائے تھے کہ کسی ضروری کام سے حضرت
 عمر بن عبدالعزیز جانا ہوا۔ دیکھا کہ آپ ایک چھڑے کے تیکے سے، جس میں کھور کے پتے
 اور چھال بھری ہوئی تھی، ٹیک رکھا تھا، ایک کھری چار پانی پر لیٹے ہوئے ہیں۔
 ان اس قدر موٹا اور سخت تھا کہ جنم مبارک پر نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت عمر
 نے تجھے میں ادھر ادھر نظر دیا۔ لیکن سوائے تین خشک کھالوں کے کوئی سامان
 نظر نہ آیا۔ ہال البتہ ایک طرف ایک برتن میں تھوڑے سے بخوبی پڑے
 تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر اس قدر متاثر ہوئے کہ آنکھوں سے آنسو جاری
 ہو گئے۔ حضور نے رونے کا سبب پوچھا تو عرض کی یا رسول اللہؐ اس سے زیادہ
 دکھ کی بات کیا ہو گی کہ بترنہ ہونے کی وجہ سے آپ کے جنم مبارک پر نشان
 پڑ گئے ہیں۔ ادھر آپ کے گھر میں تو سوائے ان تین عدد خشک کھالوں اور بخوبی
 مٹھی بھر دانوں کے اور کچھ بھی نہیں، ادھر قیصر و کسری کو دنیا و جہاں کی تمام نعمتوں
 میسر ہیں اور وہ علیش وعشرت کی زندگی بس کر رہے ہیں، حضور رسالت محبہ نے
 یہ سُن کر تسلیم فرمایا اور حضرت عمرؓ کو مخاطب کر کے کہا اے ابن خطاب! کیا تمہیں
 یہ پسند نہیں کہ ہم آخرت لیں اور وہ دنیا؟ حضرت عمرؓ نے عرض کی یا رسول اللہؐ یقیناً
 ہمارے لئے آخرت ہی بہتر ہے۔

(۳)

صفائی پسندی

حضرت سرورِ کائنات نے خود سادہ زندگی پیر کی اور اپنی امت کو بھی ایسا کرنے کی تلقین کی۔ لیکن صفائی کے معاملہ میں آپ بے حد احتیاط فرماتے تھے۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ صاف سترارہ ہنکے لئے انسان کا امیر کبیر ہونا ضروری ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ایک غریب آدمی صحیح حضورؐ کی اس سُنت پر آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ بہت مشہور حدیث مبارک ہے۔

آَبَطَّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

ترجمہ: صفائی ایمان کا حصہ ہے۔

در اصل صفائی ستراری کے سلسلہ میں ہمارے مذہب میں بہت تاکید پائی جاتی ہے۔ کپڑے اور جسم صفات رکھنے کا خاص حکم ہے اور پھر وضو ہل اور طہارت سے اس امر کو یقینی بنایا گیا ہے۔

(۲)

خوناک شیطان

ایک دن حضور رسالت کا مسجد میں تشریف فرماتے تھے کہ ایک بیٹھنے آیا۔ عجیب حلیہ تھا۔ بو سیدہ اور میلے کپڑے، سراور داڑھی کے بال الجھے

ہوبنے اور جسم پر میل جمی ہوئی مسجد میں موجود ہر کوئی اُسے عجیب نظر و سے دیکھ رہا تھا۔ حضور نے شفقت سے اُسے پاس بلایا اور حمام میں جا کر ہنانے اور یال سنوارنے کے لئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص ہنا دھو کرہ سرا اور دار الحی کے بالوں میں کنگھی کر کے دوبارہ حضور کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے فرمایا۔

”کسی خوناک شیطان کی مانند نظر آنے سے کیا یہ بہتر نہیں ہے؟“
عزیز بچو! ممکن ہے آپ میں سے بھی کچھ بچھے صفائی کا زیادہ خیال نہ رکھتے ہوں۔ یہ واقعہ پڑھنے کے بعد ان پر لازم ہے کہ اللہ کے پیارے رسولؐ کے حکم کے مطابق صفات سُچھرے رہیں۔ کھیل کوڈ کا کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ سب اس طریقے سے ہونا چاہیئے کہ آپ کا جسم اور کپڑے گندے نہ ہوں۔ اگر گندے ہو جائیں تو فوراً صفائی کر لینی چاہیئے۔

5

مال پر ذات کا حق

اسی طرح ایک اور موقع پر رسولؐ نے ایک اور مسلمان کو انتہائی خستہ حالت میں دیکھا۔ نگے سر، نگے پاؤں۔ کپڑے جگہ جگہ سے بچھے ہوئے اور گندے بھی بالوں میں دھول اٹکی ہوئی۔ بغرض عجیب حلیہ بنا رکھا تھا۔

حضرت نے زمی سے اُسے پاس بلایا اور پریشان حالی کا سبب پوچھا۔
وہ شخص کہنے لگا کہ وہ کوئی مفلس و ندار آدمی نہیں ہے۔ اللہ کا دیا بہت
کچھ ہے، لیکن وہ سب کچھ راہِ خدا میں خرچ کر دیتا ہے اور خود یوں درویشا نہ
زندگی بسر کرتا ہے۔

اس پر حضور نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بے شک بہت اچھا
فضل ہے۔ لیکن تمہارے مال پر تمہاری ذات کا بھی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے اپنے بندوں کو جن شہتوں سے نوازا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ان سے
فائدہ بھی اٹھائیں۔

چنانچہ اس شخص نے حضورؐ کی اس نصیحت کے بعد اپنا طرزِ زندگی بدلتا یا۔
اور اس کے بیاس و خوراک میں واضح تبدیلی آگئی۔

دستو؛ آپ نے دیکھا کہ ہمارا دین زندگی میں توازن کا کس قدر قائل ہے۔
سادگی اور کفایت شعاری اللہ کو یقین پسند ہے۔ لیکن ان کا حدود کے اندر رہنا ضروری
ہے۔

حدیث مبارک ہے ।

جب خدا نے تمہیں مال سے نوازا ہے تو اس کے فضل و احسان کا اثر تمہارے جسم سے ظاہر

ہونا چاہیے ।

۱۔ ابو داؤد۔ کتاب الہدایہ۔

ا حلائی رحیب

حضرت سرکار دو چہاں انہماں ملند اور پاکیزہ کردار کے مالک تھے۔ دوست، دشمن سمجھا آپ کی صداقت، امانت اور دیانت کے معترض تھے، کبھی کسی نے آپ کے منہ سے کوئی غلط بات نہ سُنی تھی۔ دشمنوں پر مچھی ایک طرح کا خون طاری رہتا تھا کہ آپ کہیں ان کے حق میں پڑ دعا نہ کر دیں۔ وہ آپ کی مخالفت میں ایڑھی چڑھی کا زور لگاتے، لیکن اندر سے ڈرتے تھے کہ کہیں آپ کی بد دعائے کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔

سیرۂ کل کتابوں میں ہمیں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بد ترین دشمن سمجھی اپنے آپ کو حضورؐ کے سامنے لا چار محسوس کرتے اور اگڑ کر بات نہ کر سکتے تھے۔ ابو جہل کے ساتھ پیش آنے والے کچھ واقعات آپ کی دلچسپی کے لئے درج کئے جا رہے ہیں۔

(1)

اوٹوں کی قیمت کی اوایلی
دوستو! اوٹ کو ریگستان کا چہاز کہتے ہیں۔ صحرائی علاقوں میں سواری

اور پار پرداری کے لئے بہت مفید جانور ہے۔ قریش نکہ بھی اپنی ضرورت کے مطابق اونٹ پالتے۔ بعض لوگوں کو تو اچھے اچھے جانور جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ ان میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ اس کے لئے میں ایک سے ایک علی نسل کا اونٹ موجود رہتا تھا۔ ایک دفتر کا ذکر ہے کہ ایک سوداگر کچھ عمدہ قسم کے اونٹ لے کر ملکہ آیا۔ ابو جہل کو پتہ چلا تو فوراً اس کے ڈیرے پہنچا۔ اونٹ دیکھے، واقعی علی نسل کے تھے۔ بہت پند آئے اور سب خرید لئے۔ خاصی طریقہ کا مال تھا۔ اتنے پیسے اس کے پاس موجود نہ تھے۔ کچھ دے دینے اور باقی کا ادھار کہ لیا کہ چند دنوں میں ادا کر دے گا۔ سوداگر کے باقی ساتھیوں کا بھی مال بک گیا تو واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ چنانچہ وہ باقی رقم کی وصولی کے لئے ابو جہل کے ہاں گیا۔ اس نے مال دیا کہ کیا آنا۔ اگلے روز گیا، تو پھر اگلے دن والی بات، سوداگر بہت پریشان ہوا، ابو جہل رقم دینے پر آمادہ ہی نہ ہوتا تھا، لیکن اگر اُسے ایک ترکیب سمجھی۔ سوچا کہ ابو جہل کو نکہ کے دیگر سرداروں میں رسوا کیا جائے۔ ایک روز سمجھی خانہ کیسے میں جمع تھے تو وہاں جا پہنچا اور لگا فرماد کرنے کہ تمہارا ایک ساتھی مجھ غریب کی رقم مار بیٹھا ہے اور ادا یگی پر تیار نہیں ہوتا۔ وہ بھی تو ابو جہل کے دوست تھے۔ انہوں نے اُسے کیا کہنا تھا۔ دور کرنے میں حضرت رسول اللہ اکرم تشریف فرماتھے۔ مخفی لطف لیئے کی غرض سے

کہنے لگے "مجھی ہم اس معاملہ میں بے لبیں ہیں۔ العینہ سامنے جو شفعت پہنچا ہے وہ تمہارے مدد کر سکتا ہے۔ سو دا گر حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی بپا سُٹائی۔ آپ فوراً اٹھے۔ اور فرمادی کے سہراہ ابو جہل کے گھر کی طرف چل دیئے۔ سرداروں نے دیکھا تو ایک آدمی پیچے کا دیکھ دیجیں آج محمد ﷺ دا مسلم، ابو جہل سے کیسے نہیں ہیں۔

دروازے پر ہیچ کر حضورؐ نے کٹھی کھشکھائی۔ ابو جہل باہر نکلا، حضورؐ کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ آنے کا سبب دریافت کیا تو حضورؐ نے فرمایا کہ اس سوداگر کی رقم ادا کر دو۔ ابو جہل پر پیغمبر ﷺ کا رعب کچھ اس طرح طاری ہوا کہ فوراً اندر گیا اور رقم لا کر سوداگر کے خواستے کر دی۔ قریش کے مخابر نے یہ منتظر دیکھا تو حرم کعبہ کی طرف دوڑا اور ساتھیوں کو بتایا کہ محمد ﷺ دا مسلم، کو دیکھ کر ابو جہل کا نگ فت ہو گیا اور اس نے ان کے حکم تعییں بیلا چوں و پڑاں کی۔

۲

ستے داموں اونٹ خریدنے کی سازش

اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دن حضورؐ، حضرت ابو بکرؓ، حضرت

۱۔ سیرہ ابن بہرام

عمرؑ اور حضرت سعد بن ابی و قاصہؓ کے ساتھ خانہ کعبہ میں تشریف فرماتے۔
انتہے پیس ایک بد و آیاہ لگا واوپلا کرنے پر قریش کے لوگوں! تمہارے ہاں کون
مال تجارت لانے کی جرأت کرنے گا۔ تم تو تاجر دوں کو بوٹ لیتے ہو۔“
حضورؓ نے شفقت سے پوچھا کہ آخر اس کے ساتھ کیا وا قسم ہوا ہے اور
کس قریشی نے اسے لوٹا ہے۔

بد و بولا جنابؓ ادنیوں کا بیو پاری ہوں۔ گھلے کر مکہ آیا تھا کہ
قدر داں لوگ ہیں اور چار ڈکے نیچ جائیں گے۔ لیکن یہاں تو اسے لینے کے
دینے پڑے گئے۔ ابو جہلؓ نے میرے تین بہترین ادنیوں سستے داموں خریدنے
کی کوشش کی۔ میرے انکار پر اس نے بجائے مکہ والوں کو کیا پیچھا دی
ہے کہ کوئی بھی اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ دینے پر آمادہ ہی نہیں
ہوتا۔ اور اب اگر میں اس قیمت پر نیچ دوں تو میری تو لاگت بھی پوچھی نہیں
ہوگی اور میں برباد ہو جاؤں گا۔

حضورؓ نے یہ رام کہانی سُنی تو فرمایا کہ سب قریش کو تو پڑانہ کہو۔
تمہاری بتائی ہوئی قیمت پر میں تینوں ادنیوں خرید لیتا ہوں۔ بد و نے بخوبی ہاں کر دی۔
اتفاق کی بات کہ ابو جہل بھی حرم کعبہ میں موجود تھا اور دُور بیٹھا سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔
سوداٹے کرنے کے بعد حضور پیدھے اس کے پاس تشریف لے گئے اور ڈانٹے کر کہا
کہ اگر آندہ کسی سے ایسی حرکت کی تو میں بُرا پیش آؤں گا۔

ابو جہل کو تو جیسے سانپ سن گھوڑا گیا۔ چنپکا بیٹھا رہا اور اُسے رسالت تاب کے سامنے زبان کھولنے کی جرأت نہ ہوتی۔ اس کے ساتھیوں کو اس کے روایت پر ڈری جیرت ہوتی۔ شرم دلانے کے لئے کہنے لگے کہ تم تو شاہزادِ محمد رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کرنے والے ہو۔ ابو جہل بولا۔ ”بخدا ایسی تو کوئی بات نہیں۔ لیکن جب محمد رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس اٹھ کر آئے تو میں نے دیکھا کہ دونیزہ پردار ان کے دائیں بائیں کھڑے ہیں اور مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں نے ذرا سی بھی غلط حرکت کی تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے!

(3)

پیغمبر کے سعادت خر نام انصاف

مکہ میں ایک شخص رہتا تھا۔ تجارت پیشہ اور نہایت مالدار۔ ابو جہل کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی تھا۔ کرنا خدا کا کہ وہ شخص اچانک بیمار پڑ گیا۔ ہر طرح کا علاج کرایا لیکن مرzen پڑھتا گیا۔ آزادی زندگی سے یادوں ہو گیا۔ تو بیٹے کی طرف دھیان گیا کہ ابھی ناہمچھو ہے کیسے زندگی گذارے گا۔ بہت سوچ پچار کے بعد اس نے اسے اپنے دوست ابو جہل کی سرپرستی میں دینے کا فیصلہ کیا۔ ابو جہل کو بیکار کر کہنے لگا کہ میں تو چند دنوں کا ہجان ہوں۔ میرے بعد میرے بیٹے

ام مانعہ۔ سیرت سرور عالم اذ موہن مودودی

کا خیال رکھنا۔ کچھ روز بعد وہ شخص فوت ہو گیا۔ اس کے بیٹے کے ساتھ ساتھ ساری دولت بھی ابو جہل کے قبضے میں آگئی۔ کچھ دنوں تک تو ابو جہل نے اس قیم پر بے کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور اس کی ہر صورت کا خیال رکھا، لیکن اپا انکی نیت بگڑ گئی۔ لڑکے کا خرچہ بند کر دیا اور اس کی جائیداد پر خود علیش کرنے لگا۔ بچہ مجبور اور بے لبس تھا۔ سمجھو نہیں آتی تھی کہ اس ظالم شخص سے اپنا حق کس طرح لئے ایک روز ابو جہل کسی مجلس میں بیٹھا تھا کہ وہ غریب بھی بچے پرانتے کپڑے پہننے چلا آیا اور باپ کے پیسوں میں سے کچھ رقم مانگی تاکہ ڈھنگ کے کپڑے بنائے کر پڑے بھر کر لکھانا سکے۔ ابو جہل کے دل میں بھلا رحم ہوا۔ چنانچہ اُسے جھٹک دیا اور کہنے لگا چلو بھاگو! میں نے کیا تمہاری ضروریات کا ٹھیکیہ یا ہوا ہے۔

مجلس میں موجود کچھ لوگوں کو شرارت سوجھی تو کہنے لگے بھئی محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم، کے پاس جا کر شکایت کرو وہ تمہاری دو کریں گے۔ وہ عصوم بھلا کیا سمجھتا۔ سید محا حضور کے پاس پہنچا اور تمام احوال کہہ سنایا جسین انسانیت ۴ قیم کی حق تلفی پر تڑپ ائھے۔ فوراً پہنچے کولے کر ابو جہل کے پاس پہنچے مجلس ابھی تک جبی ہوئی تھی، اور وہ بڑھ چڑھ کر اپنے کارناموں کی دنیا میں مار رہا تھا۔ حضور کو دور سے آتے دیکھ کر کہ گو یا خوفزدہ ہو گیا۔ رنگ فتنہ ہو گیا۔ ایک دم اخڑا کھڑا ہوا۔ آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا۔ قیم کا حق مازنابہت

بڑا ظلم ہے۔ اس کا حق اُسے دیرو۔ رسالتِ تہاب کے ان الفاظ نے کچھ ایسا
اثر کیا کہ ابو جہل نے پچے کی صوریات کے لئے فوری رقم دے دی۔ اس کے
سامنے یہ دیکھ کر صفتِ حیران ہوئے کہ حضورؐ کے اتنے بڑے دشمن نے ان کی بات
فوراً کیسے مان لی۔ ابو جہل سے کسی نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)
کو دیکھتے ہی مجھے پرمحبیب ساختوں طلبی ہو گیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اگر میں نے
ان کی بات نہ مانی تو کوئی غیر مرئی طاقت مجھے ختم کر دے گی!
عزم دوستو! یہ طاقت صرف اور صرف حضورؐ کی قوت، ایمانی تھی۔

میحران

نبی کریم صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو قبولِ
اسلام کی دعوت دی، تو انہیں کچھ عجیب سالگا۔ کہ انہیں میں رہنے والا اور
بظاہرا انہیں جیسا ایک شخص نبی کیسے بن سکتا ہے۔ ان کے خیال کے مقابلے
تو نبی کو کوئی ما فوق المفطرت ہستی ہونا چاہئے تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضور
کو جھلنا شروع کر دیا اور ان کی بات پر کافی نہ دعترتے تھے۔

اب حضور کے اصرار پر انہوں نے کھلوم کھلا کہنا شروع کر دیا کہ مخلدیا یہ بات
ہر قبیلہ میں پیدا ہونے والا اور اسی شہر کی گلیوں میں نامہ سامنے
خداوند ہونے والا آج بھی بن بیٹھا ہے۔ اگر قدم داتی ہی اپنے دعوے میں سچے
ہو تو کوئی معجزہ دکھا دے کوئی عجیب راقبوہ جو ہم نے کبھی سننا ہوا دیکھا۔

قرآن مجید کی بہت سی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ کفار اکثر حضور سے اس قسم
کے مطالبات کیا کرتے تھے۔ بلکہ کئی دفعہ تو انہوں نے حلف اٹھایا کہ مسجد
دکھانے کی صورت میں ایمان نے آئیں گے۔ لیکن یہ مضمون بہانہ تھا۔ انہوں

حوالہ کے لئے قرآن مجید کی سورہ انعام ملاحظہ ہو۔

نے مساجدات دیکھنے کے بعد عجی اسلام قبول نہ کیا۔ اور ان کے دلوں پر پڑے ہوئے قتل تکھل کے۔ اس باب میں حضور مسیح کائنات کے چند مساجدات کا ذکر ہے۔

۱

شَقِّ الْقَمَرِ

اعلان بتوت کے بعد حضور نے قریش مکہ کو اسلام کی دعوت دی تو وہ آپ کے خون کے پیاس سے ہو گئے۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں پر مسلم دستم کی انتہا کر دی۔ نہ صرف خدا آپ کی تعلیمات پر کان نہ دھرتے بلکہ دوسروں کو بھی ایسا کرنے سے منع کرتے۔ حج کے دلوں میں دُوں دراز سے لوگ مکہ میں جمع ہوتے جنور موقوع غینت جانتے ہوئے ان سے ملتے اور انہیں دین اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرتے۔ مخالفین یہاں بھی آپ کا پیچا نہ چھوڑتے تھے۔ آپ کے پیچے ان لوگوں کے پاس پہنچ جلتے اور انہیں آپ کی بات نہ سننے کی تلقین کرتے۔ لیکن آپ دشمنوں کی ان حرکتوں کی پردہ کئے بغیر باہر سے آنے والے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہتے۔

ہجرت سے کوئی پانچ سال پہلے کاراقہ ہے کہ حج کے موقعہ پر مکہ میں جشن کا سماں تھا۔ دور و نزدیک سے آنے والے قبائل نے حرم کے گرد و نواحی میں ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ہر قسم کی مشرکانہ رسوم ادا کی جا رہی تھیں۔ حضور موقو

غیرت جانے ہوئے زائرین کے خیلوں میں تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر آپ گھر کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل اور اس کے ساتھیوں سے ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل نے دیکھتے ہی مذاق کے انداز میں کہا ”اے محمد ابن عبد اللہ تم باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو تو چپکے چپکے اپنے دین کی طرف بلاتے ہو لیکن ہمیں کچھ نہیں بتاتے۔“ آپ نے فرمایا ”میں تو سب کچھ بتانے کے لئے تیار ہوں لیکن تم لوگ سنتے ہی نہیں ہو۔“

ابو جہل کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا ”ایسے ہی کیونکر میں کوئی نشانی یا مسخرہ دکھائی تو بات بھی ہے۔ حرمہ پاک کے پاس جس وقت اللہ کے رسولؐ اور مشرکوں میں یہ مکالہ ہو رہا تھا تو رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ آسمان پر چودھویں کا چاند پوری آب و قاب۔“ ایک رہا تھا۔ ابو جہل نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا ”اگر آپ آسمان پر چکنے والے چاند کو دیکھ دے کر دیں، تو ہم آپ کو سچا بیان لیں گے اور آپ کا دین قبول کر لیں گے۔“ حضورؐ نے ایکھڑا کر آسمان کی طرف دیکھا تو ایکھڑے حکم سے چاند دو ڈیکھ دیں میں تعمیم ہو گیا، بعد چند لمحوں بعد پھر سے چڑھ گئے۔

ابو جہل اور اس کے ساتھی یہ منتظر دیکھ دکر بے حد حیران ہوئے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ مسخرہ دیکھتے کے بعد وحدتے کے مطابق مسلمان ہو جاتے۔

لیکن ان کے دلوں پر تو تارے پڑے ہوئے تھے۔ ابو جہل فرز آبول "محمد و قبی
تم بہت بڑے جادوگر ہو۔ تم نے ہماری نظر نہ کر دی اور ہماری آنکھوں نے
دھوکہ کھایا۔

عزمیز دوستو! حضور کا یہ معجزہ صرف مکہ والوں ہی نے نہیں دیکھا بلکہ
دُور دراز کے رہنے والے لوگوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ اس واقعہ کے
کئی روز بعد ایک تجارتی قافلہ کمپ پہنچا تو قافلہ والوں نے بتایا کہ پہاڑ سے بکھری
میل دُور انہوں نے بھی چاند کو دیکھوں میں تعقیم ہوتے دیکھا۔

یہی نہیں بلکہ ہندوستانیکے ایک ہندو راجھ کے بارے میں مشہور ہے
کہ وہ اس رات اپنے محل کی بالکنی میں بیٹھا تھا کہ اچانک چاند کے ذریعے
ہوتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ درباری بخوبی کو طلب کر کے وجہ پر جھپی دتواس نے
حساب لگا کر بتایا کہ یہ مکہ مرب میں پیدا ہونے والے بنی آنکھ کے معجزے کے سبب
ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ راجھ نے اپنے ایک درباری کو اس طلاق
کی تصدیق کے لئے عرب بھی بھیجا جو وہاں جا کر حضور کے ہاتھ پر اسلام لایا۔

(۲)

معراج

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثبوت ملے بارہ برس گذر چکے
ہتھے۔ کفار کے منظالم عربی پر تھے۔ قبول اسلام تو دوسری بات ہے، وہ تو آپ کی

بات تک سننے کے لئے تیار نہ تھے۔ اسی دوران حضور نے طائف کا سفر کیا کہ شاید وہاں کے لوگ نے دین کے پشت پناہ بن جائیں۔ لیکن انہوں نے اپ پہ جو مظالم دھانتے اور ہم کسی دوسری جگہ بیان کرنے لچکے ہیں۔

سخت پرشیانی کا عالم تھا۔ حضور اپنا زیادہ تر رقت عبادت میں گزارتے تھے۔ ایک رات خانہ کعبہ میں دیر تک نماز اور نمافل میں مصروف رہے۔ فارغ ہوتے تو دہیں آنکھ لگ کر گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے۔ آپ کو جلکا کہ اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اپنے پیارے بنی کو عرش پر ملاقات کی دعوت دی ہے۔ حضور پرشیان ہوتے کہ وہاں تک کیسے پہنچا جائے گا۔ جبرائیل بوسے آپ فکر نہ کریں۔ آسمانی سواری برآق حاضر ہے۔ لبیں اللہ کا نام لے کر اس پر سوار ہو جائیں۔ جبرائیل نے برآق کی لگام پکڑ لی اور حضور سوار ہونے لگے تو برآق چمکا۔ اس پہ جبرائیل نے کہا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ جانتا ہیں دو جہان کے آقا آج تجھ پر سواری کر رہے ہیں۔

یہ سنن کہ برآق ادب سے کھڑا ہ گیا اور حضور اس کی پشت پر سوار ہونے لگے حضرت جبرائیل پائٹ کے طور پر آگے آگے جا رہے تھے۔ یہ برآق صحیح سواری تھی۔ اس قدر تیز رفتار کے کبھی دیکھی نہ سنی۔ کہ سے روانہ ہو کر پلا پڑا دُ مدنیہ میں ہوا۔ حضور نے نماز ادا کی اور روانہ ہونے لگے تو جبرائیل نے بتایا کہ آپ بہت جلد پھرت کر کے اس شہر میں آنے والے ہیں۔ دوسری منزل کوہ سینا پر یعنی،

یہ دُھ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ اللہ سے سماں ہوا کرتے تھے۔ تیری میں منزل بیت اللہ حکم کی تھی، جہاں حضرت علیؓ پیدا ہوئے تھے۔ آخر بیت المقدس جا کر رکے۔ پر اُن کو پاندھ کر خانہ خدا کے اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے ذمائل کے سارے پیغمبر دہان جھی ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے اور کسی کا انتشار ہے۔ آپ پہنچے تو ہمیں نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ بیت المقدس سے آسمان کا سفر شروع ہوا۔

جبرايل اب بھی ہمراہ تھے۔ پہلے آسمان پر پہنچے۔ جبرايل نے آپ کی آمد کا اعلان کیا۔ آسمان کے دروازے کھلے۔ یہاں حضرت آدمؑ نے حضور کا پہنچنے بیٹھے کے طور پر پڑے فخر کے ساتھ استقبال کیا۔

دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت علیؓ اور حضرت یحییؑ سے ملاقات ہوئی۔

تیسرا پر حضرت یوسفؑ، پوتھے پر حضرت ادریسؑ پانچوں پر حضرت ہارونؑ چھٹے پر حضرت موسیٰؑ اور ساتویں پر حضرت ابراہیمؑ سے تعارف ہوا۔ یہ آگے بڑھے تو ایک متامم پر پہنچ کر جبرايلؑ اچانک رک گئے۔ حضورؑ نے سبب پوچھا تو عرض کی۔ یا رسول اللہؐ یہ سدرۃ المنتہی ہے۔ میری ہمیشہ یہیں تک ہے۔ اگر ایک اونچی بھی آگے جاؤں تو اللہ کا نور مجھے جلا کر رکھ دے گا۔ آپ کی بات اور ہے آپ تو اللہ کے محظوظ اور ہمان میں آگے آگے آپ اکیلے ہی تشریفی لے جائیں گے۔ حضورؑ آگے بڑھتے گئے۔ حتیٰ کہ تحفیظۃ القدس کا مقام آجیا۔ یہاں اللہ اور

بھی کے درمیان صرف دوکمان یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اللہ کے حضور سلام پیش کیا۔ فوراً ہی مجاہد مل۔ مہمان اور میزبان کے درمیان راز دنیا ز ہوئے۔ اور میزبان نے اپنے مہمان کو تحفہ کے طور پر پچاپس منازیں عطا کیں، کہ آپ اور آپ کی اُمت ہر روز پچاپس منازیں ادا کرے۔

حضرت واپس ہوئے۔ ابھی چھٹے آسمان پر ہی تھے کہ حضرت مولیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھا کیا تحفہ مل، پچاپس منازیوں کا سُن کر حضرت مولیٰ نے کہا کہ آپ کی اُمت سے پچاپس منازیوں کی پابندی نہ ہو سکے گی۔ مجھے اپنی اُمت کا تسلیخ بجھوڑ ہے۔ چنانچہ ان کے لئے پر منازیں کم کرنے کے لئے دوبارہ اللہ کے درہار میں حاضر ہوئے۔ اللہ نے دس منازیں کم کر دیں۔ آپ حضرت مولیٰ کے مشورہ پر ہپرا اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ حتیٰ کہ فرض منازیں پانچ رہ گئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ پانچ پڑھنے والوں کو بھی پچاپس کا ثواب ملے گا۔ اس سفر کے دوران حضور نے آسمان کے مجاہدات کی سیر کی اور دوست کا نظارہ بھی کیا۔

والپی کے سفر میں بیت المقدس پہنچنے پہاں پھر تمام پیغمبر مسیح درستھے۔

منحر کا وقت تھا، دوبارہ امامت فرمائی اور برآق پر سوار ہو کر مکہ واپس پہنچ گئے۔

لنکریوں کی شہادت

ابوجبل اسلام اور حضور کا سب سے بڑا شہادت تھا۔ اسلام کی سچائی کے بارے

میں اُسے کوئی شبہ نہ تھا۔ لیکن حیلے بہانے کرتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ حضور رسالت مکتب کی خدمت میں اس طرح حاضر ہوا کہ دائیں ہاتھ کی مشی بند تھی۔ کہنے لگا اگر آپ یہ بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ حضور نے فرمایا ہیں بتاؤں یا مشی میں موجود لکنکر یاں خود بتا دیں۔ ابو جہل اس پر چونکا کہ حضور کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ اس کی مشی میں لکنکر یاں ہیں۔ مگر سب وہر مامدی تھا۔ کہنے لگا لکنکر یاں بتائیں۔ اس پر لکنکر یوں میں سے کلمہ شہارت کی آواز آنے لگی۔ مگر ابو جہل بھلا کب ماننے والا تھا یہ بھلا معجزہ دیکھنے کے باوجود کہنے لگا یہ تو انعروز بالش جادو ہے۔

۲

ستونِ خانہ

مسجد بندی آجبل تو اعلیٰ طرز پر تعمیر کی گئی ایک شاندار اور جدید عمارت ہے لیکن حضور کے زمانے میں مٹی، پھروس کھجور کے پول اور چپال سے بنی ہوئی تھی۔ چھت کو سہارا دینے کے لئے کھجور کا ایک ستون تھا جسے تاریخ میں ستونِ خانہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضور ایک مردہ تک اس کے ساتھ ٹکی لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے رہے۔ پھوس کھڑا رہنے سے تکلیف ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک بڑھی نے منبر بنایا کہ پیش کیا اور حضور اس پر پیش کر

ماخذ: انقوش۔ رسول بزر مجلہ ۹ ص ۷۶۷

خطبہ دینے لگے۔ آپ ممبر پر میٹھے ہی تھے کہ بے جانستون بچوں کی طرح روئے لگا۔ رسالت کی جدائی اس سے برداشت نہ ہو سکی۔ جب اس کی آہ و نہاری زیادہ شدت اختیار کر گئی تو حضور مدرسے اُتر کر اس کے پاس گئے اور دل سہ دیا جس سے وہ چُپ ہو گی۔

۵

بُت گرے

کفارِ مکہ نے خانہ کعبہ کے اندر اور باہر بے شمار بت رکھے ہوئے تھے۔ مکہ فتح ہوا اور حضور شہر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ ایک چھوٹی سی چھڑی ہاتھ میں لکھی اور زبانِ مبارک پر سودہ بنی اسرائیل کی یہ آیت جاری تھی۔

جَاءَ الْحُقْقَ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوًّا وَهُوَ قَاهِرٌ بْنَيِّ اسْرَائِيلٍ۔^۹

ترجمہ: حق آگیا اور باطل مت گیا۔ بیشک باطل نے مٹنا ہی تھا۔ آپ چھڑی سے جس بُت کی طرف اشارہ کرتے وہ ہاتھ لگاتے بغیر وہم سے زمین پر گرد پڑتا تھا۔ یوں آپ نے خانہ کعبہ کے گرد موجود ہوں کو زمین بوس کیا۔ خانہ کعبہ کے اندر موجود ہوں کو آپ کی آمد سے پہلے ہی اکھڑوا کر باہر پھینکوا دیا گیا تھا۔

۱۔ مافذہ نقوش۔ رسول نمبر۔ جلد ۹۔ صفحہ ۳۰۲۔ ۲۔ فاہدیہ برداشت طرانی۔ ۳۔ صیحت بنواری

(۴)

السلامُ يَارَسُولَ اللّٰهِ

بھرت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک دن حضورؐ ذرا گھونٹے کے لئے نکلے جو حضرت علیؓ ہمراہ تھے۔ چلتے چلتے مکہ سے باہر نکل آئے۔ اس دوران ایک عجیب منتظر دیکھنے میں آیا کہ جو بھی پہاڑ یا درخت راہ میں آتا حضورؐ کو سلام کرتا۔

السلامُ يَارَسُولَ اللّٰهِ

حضرت علیؓ سنت حیران ہوئے۔ واپس آگر انہوں نے یہ واقعہ کسی صحابہ سے بیان کیا اور کہا کہ سلام کی آواز اس قدر بلند تھی کہ میں بہ آسانی سن رہا تھا۔

(۶)

کھجروں کے پچھے کی گواہی

ایک روز ایک بد و آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کی کہ آپؐ کا دین قبول کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن کوئی نشانی یا معجزہ دیکھے بغیر ایسا کرنا

۱۔ شہائی ترمذی

مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا کیا نشانی چاہتے ہو۔ سامنے کھجور کے درخت کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ اس پر کھجوروں کے گچھے موجود ہیں۔ آپ اہنیں بلا کر دکھائیں۔ حضور رسالت میں نے اشارہ کیا تو گچھے حاضر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر پتوں کا شک یقین میں پدل گیا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔

(۸)

حضرت علیؑ کی بیماری

خبر کی جنگ میں مسلمانوں کو شروع میں نایاب کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ یہودیوں کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ دو ایک جریلوں کو آذمایا یکن۔ فتح حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ کل صبح جسے علم دیا جائے گا وہ خبر کو فتح کرے گا۔ سبھی کو تجسس تھا کہ دیکھیں کل یہ سعادت کے نصیب ہوتی ہے۔ صبح ہوئی تو حضور نے حضرت علیؑ کو طلب فرمایا۔ پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں۔ آنکھوں میں تکلیف ہے اور محضیک سے نظر نہیں آتا۔ آپ کے کہنے پر آئے، تو اس حالت میں کہ دوساریوں نے سہارا دیا ہوا تھا۔ حضور نے ان کی آنکھوں میں اپنا العابدِ دین لکایا تو بیماری یوں جاتی رہی جیسے کبھی لگی نہ تھی، چنانچہ علم حضرت علیؑ کو مطا ہوا اور خبر کی فتح انہیں کے حصے میں آئی۔

۱۔ شائل ترددی ۲۔ صحیح بخاری، باب غزہ خبر

اٹھارہواں باب

والدین کا مقام

والدین کے ساتھ حن سلوک، نیکی اور خدمت کی تائید قرآن پاک کی پارہ مختلف آیات میں موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ **دَاعِيُّ دُولَةٍ وَاللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَةِ يُؤْمِنُ إِحْسَانًا** (نساء - ۶۰) ترجمہ۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ماں باپ کی عزت، اطاعت اور فرمانبرداری پر بہت نہ ود دیا ہے۔

حدیث مبارک ہے۔

ترجمہ۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔
کسی مسلمان کی زندگی کا مقصد اور معراج آخرت کی فلاح اور جنت کا حصول ہے، اور اسے ماں کے قدموں کے نیچے لہہ کر اس ہستی کے مقام و مرتبہ کو کس قدر بلند کر دیا گیا ہے۔

۱۔ مشکوٰۃ شریف

(1)

حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق

ایک روز حضور سرور کائنات مسجد نبوی میں تشریف فرماتھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے۔ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پوچھا پھر کون، فرمایا تیری ماں، اس نے عرض کی، پھر کون۔ فرمایا تیری ماں۔ یمن دفعہ آپ نے یہی جواب دیا۔ چوتھی دفعہ اس شخص نے یہی سوال کیا تو رسالتہاب نے فرمایا۔ تیرا اپ۔ اور پھر جو اس کے تردید کرتے ہے۔ گویا خطا نہ کیا کہ والدین میں ماں کا مقام بلند ہے۔

(2)

وہ خوار ہوا۔ وہ خوار ہوا

ایک دفعہ حضور تشریف فرماتھے۔ کئی صحابہ بھی حاضر خدمت کتھے کسی موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی اکہ آپ اچانک خاموش ہو گئے اور پھر تن بار فرمایا وہ خوار ہوا، وہ خوار ہوا، وہ خوار ہوا۔

حاضرین پر شیان ہو گئے کہ نہ جانتے حضور کس کے بارے میں فرمائے ہیں۔

- ۱ - صیحہ بنخاری / کتاب الادب

عرض کی یا رسول اللہ کون خوار ہوا۔

فرمایا "وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے ایک کو پڑھا پے کی
حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی" گویا کہ بوڑھے والدین کی خدمت جنت کی کنجی ہے اور جو شخص اس سعادت
سے محروم رہا وہ واقعی بد نفیب ہے۔

(۳)

والدین کی خدمت چہاد سے افضل ہے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک کاموں میں جہاد کا درجہ والدین کی خدمت
گذاری کے بعد رکھا ہے۔ ایک ذوق فخر۔ ایک صحابی خدمت اقدس میں حاضر
ہوتے اور جہاد میں شرکت کی اجازت طلب کی۔ دریافت فرمایا۔ کیا تمہارے
والدین ہیں؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ! والدین زندہ ہیں اور بوڑھے ہیں۔
ارشاد ہوا چاروں ان کی خدمت بجالا تو پھر تمہارا چہاد ہے!

جہاد اسلام کا اہم رکن ہے لیکن ثابت یہ ہوا کہ والدین کی خدمت کا درجہ جہاد
سے بھی پڑھ کر ہے۔

یہ حقیقت ایک دوسرے واقعہ سے بھی ثابت ہے کہ ایک اور محلبین میں صحابہ

نے دریافت کیا کہ نیکی کے تمام کاموں میں سے اللہ تعالیٰ کو رسیج زیادہ کو نہ اپنے
ہے۔ فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا، عرض کی، اس کے بعد فرمایا، ماں باپ کے ساتھ
نیکی کرنا۔ پوچھا پھر اس کے بعد تو ارشاد ہوا خدا کی راہ میں منتے اٹھانا یعنی جہاد کرنا۔

۲

گناہ کا کفارہ

ایک دفعہ ایک شخص حضور رسولِ مطہب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا رسول اللہ
مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ سخت نادم ہوں۔ توبہ کرنا چاہتا ہوں۔
مجھے بتائیے کہ میں توبہ کیسے کروں۔

فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟
عرض کیا رسول اللہ ہیں۔

فرمایا کوئی خالہ ہے، تو وہ شخص کہنے لگا کہ ایک خالہ زندہ ہے۔

فرمایا اس کے ساتھ نیکی کر۔ ہمی تیری توبہ ہے!

سبحان اللہ! ماں کا مقام ملاحظہ ہو کہ صرف اس کی ہی ہنسی پہنکہ اس کی ہنسی کی خدمت
بھی پڑنے سے پڑے گناہ سے معافی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔

(۵)

والدین کی اطاعت کا اجر

والدین کی اطاعت اور خدمت کا کسی قدر ثواب ہوتا ہے ۱۱ سے واضح کرنے کے لئے حضور نبی کریمؐ نے ایک دفعہ ایک داستان بیان فرمائی۔ کرتین مسافر کہیں جا رہے ہے تھے، تیز بارش برنسے گل۔ بھاگ کر ایک پہاڑ کے غار میں پناہی کر تھے گی اور تو پھر سفر پر روانہ ہو چاہیں گے۔ لیکن کرنا خدا کا یہ کہ جو ہنی وہ غار میں داخل ہوئے ایک بھاری پتھر پہاڑ پر سے لٹکتا آیا اور غار کا منہ بند کر دیا۔ اب تو وہ بیچارے بہت گمراہے۔ پتھر نوں قدر بھاری تھا کہ ہلانے یا ٹھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ موت سامنے نظر آرہی تھی۔

سخت پریشانی کے عالم میں ایک بولا اب صرف دعا سے ہی کام چل سکتا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ دعا کسے مالگی جائے۔ تیسرا بولا کہ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ ہم میں ہر ایک کو اپنی اپنی کسی بہت اہم نیکی کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کرنا چاہیے۔ چنانچہ پہلے مسافرنے کہا میرے ماں باپ بورڈھے ہیں، میں غریب آدمی ہوں۔ گذارے کے لئے بکریاں پال رکھی ہیں۔ روزہ شام کو انہیں چڑا کر واپس آتا ہوں تو سب سے پہلے

والدین کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور انہیں دودھ پلاتا ہوں۔ اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں۔

ایک دن بکریاں چراتے چراتے خجھل میں قڑا دُور نکل گیا۔ دودھ کا برتن لے کر والدین کے کمرے میں گیا تو وہ سوچکے تھے میں دودھ لئے ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ انہیں جگاتا نہیں تھا کہ ان کی نیند خراب ہو گی اور اپنی جگہ سے اس لئے نہیں ہٹتا تھا کہ نہ جانتے کس وقت بیدا ہوں اور دودھ مانگ لیں۔ چنانچہ پوری رات گذر گئی اور میرے نبکے مھوک سے بلکہ رہے۔

دقائق بیان کرنے کے بعد اس شخص نے اللہ کے حضور دعا مانگی کہ یا اللہی اگر میرا یہ کام نیکی کا تھا تو اس کے صدقے مہیں آج اس مصیبت سے نجات دلا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ فارکا منہ کسی حد تک کھل گیا۔ اس کے بعد باقی دوساریوں نے بھی اپنی نیکیوں کا ذکر کیا تو پورا پھر دروازے سے ہٹ گیا۔

خوش کلامی

ہمارے ذہب میں بد کلامی اور گالی گلوج سے بچنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یہ بہت پُری عادات ہیں اور ان سے معاشرہ میں بے شرمی اور بے حیائی پھیلتی ہے۔ لوگوں کی دلآناری ہوتی ہے۔ اخوت اور محبت کم ہو جاتی ہے اور اڑائی فساد کے امکانات پڑھ جلتے ہیں۔

حدیث مبارک ہے:- ترجمہ: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور پاٹھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

ایک اور حدیث مبارک ہے:- ترجمہ: مسلمان نہ طعنہ دیتا ہے، نہ لعنہ بھیجا تا ہے، نہ بذریانی اور فحش کلامی کرتا ہے۔

رسالتا ب نے ایک اور موقعہ پر فرمایا:- ترجمہ: جو اللہ اور روزِ قیامت پر یقین رکھتا ہے۔ اسے چاہیئے کہ اچھی بات بولے در نہ چپ رہے ۔ ہمارے معاشرے میں بذریانی اور گالی گلوج کا کچھ رواج سا ہو گیا ہے۔ بعض لوگ تو دوستی اور بے تکلفی کے اظہار کے لئے بھی لگائیں کا استعمال کرتے ہیں۔

یہ بے حد بڑی بات ہے اور ہمیں اس سے پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہئے۔ زبان انسانی جسم کا ایک پاک حصہ ہے اسے گندा نہیں کرنا چاہئے بنی کریم نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں کچھ واقعات نیچے درج کئے جا رہے ہیں۔

①

جاہلیت کا اثر

حضرت ابوذر غفاریؓ ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ ہنایت خدا ترمس اور نعم مزاح، کام کا حج کے لئے ایک ملازم رکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ بھی بڑی شفقت سے پیش آتے۔ لیکن ایک دن نہ جانے اس سے کیا غلطی ہو گئی کہ حضرت ابوذر کو سخت طیش آگیا اور غصے میں ملازم کو گالی دے دی۔ کسی نے جا کر حضور کو بتایا تو فرمایا، ابوذر میں جاہلیت کا اثر باقی ہے!

گویا کہ بدزربافی کرنا اور گالی دینا زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں اور مسلمانوں کو زیب نہیں دیتیں۔

②

اپنے والدین پر لعنت نہ بھجو

ایک روز حضور چند صحابہ کے ساتھ تشریف فرماتھے۔ پھر مٹے بڑے گزاروں

۱۔ سیمیج بخاری کتاب الادب

اوہ شیکیوں کا ذکر ہو رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ! ماں باپ تو ہر کسی کو بہت عزیز ہوتے ہیں اور وہ ان کا بے حد احترام بھی کرتے ہیں۔ جلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ان پر لعنت بھیجے۔

سرکارِ دوچینا نے فرمایا تم تھیک کہتے ہو، لیکن یہ ممکن ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اگر کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دے گا، تو وہ جواب میں اس کے ماں باپ دونوں کو بڑا بجلہ کہے گا۔

یوں اس شخص نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی اگر وہ اپنی زبان پر قادر رکھتا تو اس کے والدین پر لعنت نہ بھیجی جاتی۔

۳

اس کا فعل اس کے ساتھ، میرا فعل میرے ساتھ

ایک دفعہ ایک شخص حضور مسیح کائنات سے ملنے آیا۔ ذرا منہ بچٹ اور بیدزاں قسم کا آدمی تھا اور قبیلہ والے اس کی اس عادت سے بہت تنگ تھے۔ حضورؐ کو جی اس کی بند عادت کا علم تھا۔ چنانچہ ابھی وہ دُور ہی تھا کہ آپ نے حضرت عائشہؓ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ شخص اپنے قبیلہ میں نہایت بر اس محاجا جاتا ہے۔ اتنے میں

وہ نزدیک آگیا تو اپ اسے بڑے اچھے طریقہ سے ملے، پاس بٹھایا اور اس کی
بات تسلی سے سُنی۔

حضرت عالیہ یہ منتظر دیکھ رہی تھیں۔ انہیں حیرانی ہوئی کہ پہلے تو حضورؐ
نے اُسے برا آدمی کہا اور اپنے اس کے ساتھ اس قدر محبت اور شفقت سے پیش
آئے۔ چنانچہ اس شخص کے جانے کے بعد حضورؐ اندر تشریف لائے تو حضرت
عالیہ سے نہ رہا گیا اور پوچھ ہی یا کہ آخر اس سے اس قدر حسن سلوک کی کیا
وچہ تھی۔

رحمت للعالمین نے یہ سنا تو قبیم کیا اور فرمایا عالیہ تم نے مجھ کو بد زبان
لکب پایا۔ قیامت کے ذن خدا کے نزدیک سب سے بُرا شخص وہ ہو گا
جس کی زبان کے خوف سے لوگ اُسے چھوڑ دیں۔
گویا کہ اگر وہ بُرا انسان تھا تو اس کی عجائی اس کے ساتھ تھی۔ بحدا میں اپنی
اچھائی کیوں چھوڑتا۔

(۲)

ہوا خدا کی فرمابردار ہے

رسولِ ﷺ نے انسان کے علاوہ دیگرہ جاندار اور بے جان چیزوں کو لگائی دینے

اور پڑا بھلا کہنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تیز ہوا چل رہی تھی اور ہمارا اس کے کنسے پر ٹھہر تی نہ تھی۔ دو ایک بار تو اس نے سنبھالا، لیکن پھر ہوا سے آٹھ گئی تو سخت جھنجلا یا اور ہوا کو لگائی بکر دی۔

حضرت نے سنا تو فرمایا، ہوا کو پڑا بھلا نہ کہو، اس کا کوئی قصور نہیں۔ وہ تو خدا کی فرمابندوار ہے۔

(۵)

جانور پر لعنت نہ پہچو

اسی طرح بعض لوگ جانور پر لعنت بھیجتے ہیں اور انہیں پڑا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ حضور نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ ایک دفعہ آپ چند صحابہ کے ہمراہ سفر پر تھے۔ ایک خاتون بھی ہمراہ تھی۔ اس کی اونٹی ذرا سست رفتار تھی۔ بار بار پیچھے رہ جاتی تھی۔ خاتون نے جھنجلا کر اس پر لعنت بھیجی تو رسول خدا ناراضی ہوئے اور سزا کے طور پر اس اونٹی کو الگ کر دیا۔ تاکہ عورت دربارہ اس قسم کا کلمہ نہ کہہ سکے۔

حضرت سرو رکونیٰ نے ہر ایسی بات سے منع فرمایا ہے جس سے دوسرا سے کا دل

۱۔ ابو داؤد۔ کتاب الدادب۔ ۲۔ ابو داؤد۔ کتاب الجہاد

دُلکھے یا اس کی توہین ہوتی ہو۔ کسی کو کافر کہنا اگرچہ عام معنوں میں گالی نہیں لیکن ہزارے مذہب میں یہ ایک بہت بڑی گالی ہے۔ جنضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دوسرا کو کافر یا فاسق کہتا ہے اور وہ ایسا نہیں ہے تو یہ گالی خود دینے والے پر لوٹ آئے گی۔

عزمیہ دوستو: دیکھا آپ نے ہمارے مذہب میں دوسروں کی عزت د احترام کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہمیں چاہئے کہ پیارے نبیؐ کی پیاری پیاری باتوں پر عمل کریں۔ کبھی اپنی زبان کو گالی سے گندہ نہ کریں اور دوسروں کا دل نہ دُلکھائیں۔

مشکل الفاظ کے معانی

پہلا باب - حالاتِ زندگی

نا تھر بٹانا - مدد کرنا، چرچا - شہرت، راہ جتی - سچائی کی راہ، رحلت - وفات، خاطر خواہ - مناء، کافی، ریاست - حکومت، حملت، پڑاؤ کرنا - بھڑانا، مرعوب ہونا - رعب میں آجائنا۔

دوسرा باب - بچپن کے واقعات

بطور خاص - خاص طور پر، شرفاء - شریعت کی جمع، وقتاً فوتاً - کبھی کبھی، مریل - کمزور، رخنا علی بھائی - جو سے باقی نہ ہوں لیکن ایک ہی ماں کا دو حصہ پیا ہوا، شیر خوار - دور حصہ پینے والا، منصب بتوت پر فائز ہوئے - یعنی نبی مقرر ہوئے، قتوحات - فتح کی جمیع، احترام - عزت، شری صدر - سینہ چاک کرنا، محظوظ - اُڑنے میں معروف، مصلنا - صند کرنا، تذبذب - سوچ دل پسکھ گیا - دل ٹرم ہو گیا، دنیا و مانیہا - دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، جوئی درجوق - گردہ درگردہ، اصرار سے ہند، سہمنا - ڈرنا، نو خیز جو ابھی ابھی ٹراہیڑا ہو رہا، ماجراجفتہ، آخوش - گود، حافل - محفل کی جمیع، پرہنسہ - نشکا،

تیسرا باب - پھول سے ونجیسی

رغبت - محبت، سرزنش - سزا، بے تحاشا - بہت زیادہ، آزردہ - پریشان، اشکار ہونا - آنسو آ جانا، صحابہ - صحابی کی مؤثر، عیادت - بیمار کا حال پوچھنا، بے سعد - بے ہوش، آثار - علامات، نشانیاں،

چوتھا باب - صداقت و امانت

افضل ترین - سب سے اچھی، احادیث - حدیث کی جمیع، صادق - سچا، این - امانت دار، غلط بیانی - چھوٹ، روزمرہ - روزانہ، عارات - عادت کی جمیع، فضائل - فضل کی جمیع، خوبی - بزرگی، ممتاز - سمجھی گئی، بخدا - خدا کی قسم، پالا پڑنا - واسطہ پڑنا، تعلق ہونا، رونما - ظاہرا معرفت ہونا، اعتراف کرنا، مان لینا، ختمہ زن ہونا - ختمہ لگانا، رکن، صفات - صفت کی جمیع، دشمن دین - دین کا دشمن، دستگیری کرنا - لفظی معنی ہاتھ کر کرنا، یعنی مدد کرنا، رہنمائی کرنا، یکدم - فوراً،

پاچھوال باب۔ جرأت و شجاعت

ٹانی، دوسرا، کھنڈ میشکل، منتشر ہونا۔ بھمر جانا، قلب۔ لفظی صنی ادل یہاں مطلب ہے فوج کا عدیمیانی حصہ غرفات۔ غزوہ کی جمع، جان شار۔ جان قربان کرنے والے یعنی پہت و فادار، پیوست ہونا۔ گڑ جانا، داویلا۔ چینخ و پکار، ناحق۔ فضول، اذیت۔ تکلیف، قدرت۔ طاقت، نظر انداز کرنا۔ توجہ نہ دینا، اچھنے کی بات۔ عجیب بات، آن دیکھا نہ جسکے دیکھا نہ ہو، اول قُول۔ فضول، برگزیدہ۔ چنے ہوئے، وہیہ۔ رُعیب، اشہد زور۔ بہت طاقتوراً پڑھ دھرم۔ حندی، گلگھی بندھنا۔ خوف سے آواز نہ لکھن۔

چھٹا باب۔ عدل و انعامات

گرد و پیش۔ ارد و گرد، بے باک۔ بے خوف، مجال۔ سہمت، حوصلہ، دلائک۔ دلیل کی جمع، متغیر ہونا۔ بدل جانا، بنفس نفس۔ خود ذاتی طور پر اپشیان۔ ایسی شرمندگی جس میں افسوس بھی شامل ہو، نوارو۔ نیا آنے والا، قصاصی۔ بدلہ، پیٹ میں چھپے دوڑنا۔ سخت بھوک کرنا، ماجرا۔ واقعہ، فاروق۔ سرق کرنے والا، نااشنا۔ ناواقف، کراہی۔ تکلیف سے ہاتے ہوئے کرنا، پے کل۔ پریشان، امرار۔ صند، مدحی۔ جزوی کرنا، ملزم۔ جس پر ارادہ ہوا، آنالہ۔ علاج، شکایت کرنہ۔ شکایت کرنے والا،

ساتواں باب۔ الیفائیے ہر

سرائخوں میں ٹھاننا۔ بہت زیادہ عزت کرنا، گھٹا۔ نقصان، ذات بابرکات۔ برکتوں والی ذات، خانہ خُدا۔ خدا کا گھر، اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ، قاصہ۔ سعیم لے جانے والا، فریقین۔ فرقہ کی جمع، نمائیج۔ نسبج کی جمع، حیرت انگیز۔ جیلان بڑھانے والا دفعہ فتح میں۔ وہنچ فتح، طیش۔ غصہ، تشدید۔ سختی، پاداش۔ سزا، آشخوں میں خاک جھونکنا۔ دھوکہ دینا، سُرسری۔ معمولی، کاربند۔ حیام،

آٹھواں باب۔ حلم و علفواد صبر و حمل

بے شال۔ جس کی مثال نہ ہو، توہین آمیز۔ توہین والا، اُمّ المؤمنین۔ موسیٰ نبی مصطفیٰ کی زادہ جنمترہ، فوج کشی۔ حملہ، پیش پیش۔ آگے آگے، حالت خراب ہونا، حالت خاب ہونا، کارستافی۔ کام، حوصلہ۔ خوب ہانے والا، حسپہ دتھر۔ رواج کے مطابق، خیر خاہی۔ بہتری چاہنا، سُھھا اڑانا۔ مناق اڑانا، گران قدری۔ جبری لگی،

نوان باب۔ حسن اخلاق

نیر و دست۔ ماتحت، ملکوم جب پر حکومت کی جائے، عرشہ۔ معجزہ، سرخرو۔ کامیاب، شب ببری۔

رات گزارنا، نادان۔ بے د حقوق، لفڑا ہوا۔ گندہ، ملamt کرنا۔ پہاچان، کم سن۔ کم عمر،
نخست جگہ۔ جگہ کا ٹکڑا یعنی پیٹا، فدیہ۔ وہ رقم جو علام کو آزاد کرنے کے لئے ادا کی جاتی تھی،
شانہ۔ کندھا، سرکوبی کرنا۔ سزادیا، ہاک میں دم کرنا۔ تنگ کرنا، پیسپی کرنا۔ مذاق اڑانا،

دسوال باب۔ تدبیر اور معاملہ ہمی

معاملہ فہم۔ معاملہ کو سمجھنے والا، فہم و فراست۔ عقل و دانائی، عکش عشق کرنا۔ دادا، دادا کرنا، یعنی
داد دینا، نزغے میں۔ چھرے میں، سنتگین۔ سنت، اہل بدر۔ وہ صاحبہ پہنچ نے عزوہ بدر میں
حضور لیا۔ گھناؤنا۔ جس سے گھنن آتے یعنی بہت بڑا، صریح۔ کھلے طور پر، تنظیر۔ شال امداد ہونا۔
قصور وار ہونا، فضیب کرنا۔ گھاؤنا، زمانہ قدم۔ پرانا زمانہ، مسترت۔ خوشی، انتقام۔ بدله،
اہل دعیال۔ کتبہ، خاندان،

گیارہواں باب۔ حضورؐ کا مزار

شگفتگی۔ تمازگی، پشت۔ کمر، بیت المال۔ اسلامی خزانہ، محظوظ۔ خوش، گماشہ۔ نمائندہ،
بیشم۔ مسکراہٹ، عزوہ۔ وہ جنگ جس میں حضورؐ خود شرکیے ہوئے، زخم ہونا۔ پریشان ہونا، تنگ آ جانا،
کاری ضرب۔ اثر والی چوتھے،

پارہواں باب۔ محنت کی عنطیت

غار۔ شرم، اذدواج مطہرات۔ پاک بیویاں یعنی حضورؐ کی بیویاں، حامی بھرنا۔ وعدہ کرنا، حائل ہونا۔
رکاوٹ داننا، ریزہ ریزہ۔ ٹکڑے ٹکڑے، بیتا۔ پریشانی کی بات۔

پندرہواں باب۔ معذوروں سے خصوصی شفقت

معذور۔ جس میں ذہنی یا جسمانی نفس ہو، میوب۔ عیوب والا، بڑا، خردکیعنی۔ جو اپنا گزارہ خود چلا سکے،
ہاویا۔ شور، حاجت رعاۓ کرنا۔ منورت پوری کرنا، مساوات۔ بر اپری، جلیل القدر۔ بڑی عنت دلاء
درست۔ بیوق، حقیر۔ گھٹیا، نظام کے پیارا ٹوٹ پڑے۔ بے خللم ہوئے، کار بند رہنا۔ قائم رہنا،
گذرگاہ۔ راستہ، داہی تباہی۔ فضول یا تیس، آنکھوں خون اترنا۔ سنت غصہ میں ہونا، لازمی ضروری
تنفس میں اطمینان، موثر۔ اثر والا،

چودھواں باب۔ چالنوروں سے ہمدردی

پھر پڑاہٹ۔ پراؤں کی آوازا، پشتہ۔ کمر و مہادا۔ ایسا نہ ہو کہ، اللہ کو پیلا ہونا۔ مر جانا،

احسات۔ احسان کی جیسے،

پندرہواں باب۔ سادگی و صفائی

نشست۔ پیشہ کی جگہ، دخود۔ دندک جسے، جاہ و ملال۔ شان دشوت، شایی عبا۔ شاہی بس، ایک چوغہ جو کپڑوں کے اوپر پہنہ جاتا ہے، مہادا۔ ایسا نہ ہو کہ، زیب تن کرنا۔ پہنہ، پورہ۔ پانا، دھنوں۔ گرد، مغلس۔ عزیب، کفایت شماری۔ اختیاط سے خرچ کرنا،

سولہواں باب۔ ۱۔ خلائقی رخصب

اڑی چوٹی کا زور لگانا۔ پورا زور لگانا، بار باری۔ بوجھا لھانا، رسوا۔ دلیل، بپنا، پرشانی کی بات، بلا چون وچانی۔ چنکے سے بہت کئے بغیر، لگت۔ قیمت، خرص، بخوشی۔ خوشی سے، ما جرا۔ قصہ، واقعہ، احوال۔ حال کی جسے، غیر مری۔ نظرہ آنندالی،

سترہواں باب۔ معجزات

ما فوق الفطرت شیعیں۔ انسان جو اللہ کے پیدائش کئے ہوئے عام انسانوں جیسا نہ ہو، قفل۔ تالا، تعلیمات۔ تعلیم کی جمع، مکالہ۔ بات چیت، آب و تاب۔ چک دیک، پشت پناہ۔ مدھار، نوافل۔ فضل کی جمع، پرآق۔ لھوڑے کی خشکی کی رہنے والی آسمانی سواری، تلنے۔ کڑدا، ہٹ دھرم۔ مندی، آہ و ناری۔ روزہ دھننا۔ دل سے۔ تسلی،

اٹھارہواں باب۔ والدین کا مقام

چہار۔ اللہ کی راہ میں جگ، ملا خلیہ کرنا۔ دیکھنا، دستان۔ لہانی،

انیسوال باب۔ خوشش کلامی

خوشش کلامی۔ اچھے طریقے سے بات کرنا، دلکشی۔ دل دکھانا، جبلیل القدر۔ برٹے مرتبہ الہ،

پہنچادت۔ پڑی عادت،

تعارف کرت احادیث

- کتاب میں شامل واقعات احادیث کے مختلف مجموعوں سے نہ گئے ہیں۔ ذیل میں مشہور کتب احادیث کا تعاریف پر کیا جاتا ہے
- * **موطا:** احادیث کا مجموعہ امام مالک بن ان (ولادت ۱۹۲ھ، وفات ۲۰۹ھ) نے مرتب کیا ہے۔ بل و تاکہ کا تدواد میرہ ہے۔
 - * **مسند احمد:** احادیث کا مجموعہ امام احمد بن حنبل رولادت ۲۳۷ھ، وفات ۲۴۵ھ کی تالیف ہے۔ اسیں تیس ہزار روایات شامل ہیں۔ اس کتاب کی ترتیب میں سنوانات کا لحاظ ہنسیں رکھا گیا۔ بلکہ ہر صحابی کی تمام روایات ایک جگہ جمع ہر دی گئی ہیں۔ اس مجموعہ میں تقریباً تمام قابل ذکر احادیث موجود ہیں۔
 - * **بخاری:** یہ امام محمد بن رسماعیل البخاری (ولادت ۱۹۴ھ، وفات ۲۰۷ھ) کی تالیف ہے۔ بل و روایات کی تعداد ۹۰۸۲ ہے۔ مستند روایات ۵۷۲ ہیں۔ کتاب کی تالیف میں ۱۷۰ سال فوت ہوئے۔
 - * **مسلم:** یہ کتاب مسلم ابن حجاج قیشی رولادت ۲۰۳ھ، وفات ۲۶۱ھ کی تالیف ہے۔
 - * **سنن ابو داؤد:** یہ کتاب امام ابو داؤد اشعت بیوی سلیمان سجستانی رولادت ۲۰۷ھ، وفات ۲۱۷ھ کی تالیف ہے۔ اس میں چانہ ہزار اعڑ سوا حادیث شامل ہیں۔
 - * **ترمذی:** امام ابو علیسی ترمذی دولادت ۱۹۹ھ، وفات ۲۱۹ھ کی تالیف ہے۔ اس پر میں قیہی مالک کی تفصیل موجود ہے۔
 - * **نسائی:** امام احمد بن شعیب نسائی (وفات ۲۰۳ھ)، کی تالیف ہے۔
 - * **ابن ماجہ:** امام محمد بن زید این ماجہ قزوینی (وفات ۲۰۷ھ) کی تالیف ہے۔
 - * **ایحیث:** کے آعڑ مجموعے ہیں۔ موٹلا اور مسند احمد کے علاوہ باقی چھ کو محدثین کی اصطلاح میں صحاح بستہ کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ ابن ماجہ کی بجائے موٹلا کو صحاح بستہ میں شمار کرتے ہیں۔ صحت، اسنہ اور ثقامت کے اعتبار سے موٹلا، بخاری اور مسلم اعلیٰ ترین مقام رکھتی ہیں۔ جبکہ باقی کا درجہ ان سے قدر سے کم شمار کیا جاتا ہے۔

۱۔ اخذ اندوین سنت از عبد الغفار حسن۔ نقوش، رسول نمبر۔ جلد ۹۔ صفحہ ۷۱۷ - ۱۹۳۷

١٤٩

مـ ٣٠

(سرت کی بانیاں)

بـ احمد بن علی

وَسَلَّمَ
وَاللَّهُ عَلَيْهِ
صَلَّى